

اللہ کہاں ہے؟

کتاب کا یہ مذکورہ بالاعنوان م Hispan میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک سے متعلق ہے، دیگر بہت سے عقائد کی طرح اس عقیدے میں بھی ایسی بات کو اپنایا جا چکا ہے اور اس کی تشبیہ و ترویج کی جاتی ہے جو بات قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور امت کے آئندہ رحمہم اللہ اجمعین کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کتاب میں اسی غلطی کو واضح کیا گیا ہے، وللہ۔

تألیف: عادل سہیل ظفر

معزز قارئین توجہ فرماں!

کتاب و سنت ذات کام پر دستیاب تمام الیکٹر انک کتب
.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔ 

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload) 

کی جاتی ہیں۔

دعویٰ مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل
اجازت ہے۔ 

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ 

ان کتب کو تجارتی یا مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔ 

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔ 

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

صفحہ	فہرست مضمایں	رقم
4	مقدمہ (جسے اکثر پڑھنے والے، پڑھتے نہیں)	1
8	اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَیٰ کے فرائیں	2
14	رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آکہ وسلم کے فرائیں	3
31	صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آقوال	4
35	چار اماموں کے آقوال (امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ)	5
36	امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ	6
37	امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ	7
39	امام محمد بن ادريس الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ	8
39	امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ	9
40	تابعین اور تنقیح تابعین رحمہم اللہ کے آقوال	10
55	شکوک و شبہات	11
59	شکوک و شبہات کے جوابات	12
60	پہلے شک کا جواب	13
66	دوسرے شک کا جواب	14
72	تیسرا شک کا جواب	15
77	مصادر و مراجع	16

:: مقدمہ ::

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وِرَأْنَا وَمَنْ سِيَّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِي كُوْنَهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ؛ فَلَا هَادِي لَهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

وَأَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كِتَابُ اللّٰهِ، وَخَيْرَ الْهُدَىٰ هُدَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدَعَةٌ وَكُلُّ بِدَعَةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ فِي النَّارِ -

بے شک خالص تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اُس کی ہی تعریف کرتے ہیں اور اُس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور اُس سے ہی مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنی جانوں کی بُراٹی سے اور اپنے بُرے کاموں سے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اُسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اُسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہ اکسیلا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں،

اس کے بعد :: بے شک سب سے زیادہ خیر والی بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے خیر والی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم (کے ذریعے ملنے) والی ہدایت ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہے۔

اللہ کہاں ہے؟

سابقہ امتوں کی طرح ہم نے بھی اپنے مذہبی عقائد اور مسائل اپنانے میں اپنے قصے کہانیوں اور نام نہاد علماء سے حُسْنِ طلن پر بہت زیادہ آعتماد کیا اور اپنے معبودِ حقیقتی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کی توحید سے دور ہوئے، اپنے مالک و خالق سے دُور ہوئے، نہ اُسکی ذات کو پہچانانہ اُسکی صفات کو جانا، اللہ کو خدا کر ڈالا، خالق کو مخلوق میں قید کر ڈالا، اور اور اور،

اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رُشد کے لیے اپنے ایک رسول جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے دوسرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا، اور اپنی ذات اور صفات کے بارے میں جو چاہا جتنا چاہا اپنے کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہمیں اُس کی خبر فرمائی،

اُن دو ذریعوں اور واسطوں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ یا واسطہ ایسا نہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی ایسی خبر دے سکے جس پر شک کی گنجائش نہ ہو اور اُس پر ایمان لانا فرض ہو، اور اُن دو ذرائع سے آنے والی اخبار کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں جس نے شک کیا وہ صاحبِ ایمان نہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان لانا فرض ہے بات کو مختصر رکھنے کے لیے اپنے اس وقت کے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور ناموں کی توحید سے متعلق ایک بنیادی عقیدہ ہے اور ایک بنیادی سوال

بھی ہے کہ :::: اللہ کہاں ہے؟؟؟؟

آئیے اختصار کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، مندرجہ ذیل چیزوں میں اور مندرجہ ذیل ترتیب سے :::

اللہ کہاں ہے؟

پہلے (1) اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن الکریم میں،
اس کے بعد (2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم کے فرائیں مبارکہ
یعنی احادیث شریفہ میں (اور ان شاء اللہ صرف صحیح ثابت شدہ احادیث کا ذکر ہوگا)،
اس کے بعد (3) صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال میں،
اس کے بعد (4) تابعین رحمہم اللہ،
اس کے بعد (5) تابع تابعین رحمہم اللہ،
اس کے بعد (6) امت کے معروف آئندہ (اماموں) رحمہم اللہ کے اقوال،
اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام اقوال کی صحت اور درستگی کی تحقیق کے ساتھ، اپنے مندرجہ
بالأسوال کا جواب تلاش کرتے ہیں،
اس موضوع سے متعلق اکثر کچھ شکوک اور شبہات کا اظہار رہتا ہے، مثلًا کہا یا لکھا جاتا
ہے کہ ::::
::: اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے :::: یا،
الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ کہا یا لکھا جاتا ہے کہ ::: اللہ کا وجود زمینوں اور آسمانوں
میں ایک ہی جیسا قائم ہے، یا،
::: اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے :::: یا،
::: اللہ کو کسی ایک جگہ پر ثابت کرنے سے تجسم وارد ہوتی ہے اور یہ کفر ہے :::
وغیرہ وغیرہ،
دلوں کے حال صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر عموماً
ان شکوک و شبہات کے دو تین ہی اسباب بھائی دیتے ہیں کہ، یا تولا علمی کی بنابر، یا
کبھی جانتے بوجھتے ہوئے اور کبھی نہ جانتے ہوئے کسی مسلک و مذهب کو ہی درست

اللہ کہاں ہے؟

ثابت رکھنے کی کوشش میں، اور، یا اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کی بات کو، ہی طحیک ثابت کرنے کی کوشش میں، یا اپنے خود ساختہ فسفلوں اور اپنی ذاتی عقل میں نے والے وساوس کو، ہی دُرست ثابت کرنے کی کوشش میں ایسا کیا جاتا ہے، یہاں آغاز میں، تو میں ان مذکورہ بالا فلسفیانہ شکوک کا صرف اتنا سازِ کر، ہی کافی سمجھتا ہوں، ان شاء اللہ ان فلسفہ زدہ شبہات کا انہی کے انداز میں منطقی اور فلسفیانہ جواب آخر میں دوں گا۔

اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو پڑھنے والوں کی إصلاح کا اور میری مغفرت کا سبب بنائے۔
عادل سعیل ظفر۔

15 ذوالقعدہ 1424 ہجری، الموافق، 07/JANUARY/2004

الحمد لله، کتاب کا پہلا اصدار بتاریخ 10 ربیع الثانی 1433 ہجری، الموافق 3 مارچ 2012 کو قابل نشر صورت میں تیار ہو گیا، کتابت کی غلطیوں کی نشاندہی کے لیے میں ہونہار بھتیجے عبداللہ حیدر کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ اُسے جزائے خیر سے نوازے۔

اللہ کہاں ہے؟

اللہ سُبْحَانُهُ وَتَعَالٰی کے فرایمِ نعم

آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ جل و عز نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟

(۱) اللہ تعالیٰ القدیر کا فرمان ہے :: :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى إِلَيْهِ الظَّهَارُ يَطْلُبُهُ حَتَّى شَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْخَرًا إِلَيْهِ أَلَا لَهُ إِلَّا قُوَّةٌ وَلَهُ الْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ :: بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق چھ دن میں کی پھر عرش پر قائم ہوا، وہ دن کورات سے اس طرح چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آلتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اس طرح بنایا کہ وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، تو کیا اُس کے لیے ہی نہیں ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی ہی خوبیوں والا ہے تمام جہانوں کا رب ﴿ سورت الاعراف (۷) / آیت 54۔

(۲) اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے :: :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَمْ يَرَوْا أَنَّا أَنَا أَنَا الْحَسَنَى﴾ :: بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق چھ دن میں کی پھر عرش پر قائم ہوا (وہاں سے تمام) کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی اُس کی اجازت کے بغیر (اُس کے سامنے) شفاعت کرنے والا نہیں ہے، ایسا ہے تم سب کا رب ہے لہذا اُس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی سوچتے نہیں ﴿ سورت یونس (۱۰) / آیت 3۔

(۳) اللہ سُبْحَانُهُ وَتَعَالٰی کا فرمان ہے :: :

اللہ کہاں ہے؟

﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفْصِلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾
اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا (جیسا کہ تم اس (آسمان دُنیا) کو دیکھ رہے ہو پھر اللہ عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو اس طرح اپنے ماتحت کیا کہ وہ ایک مقرر شدہ وقت تک کے لیے چل رہے ہیں اللہ ہی کام کی تدبیر کرتا ہے (اور) وضاحت کے ساتھ نشانیاں بتا رہا ہے تاکہ تم لوگ اپنے رب سے ملنے پر یقین کرو

﴿سُورَةُ الرَّعْدِ (13) / آیَتُ 2،﴾

(4) اللہ الرَّحْمَنْ کافرمان ہے ::

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى:: الرَّحْمَانُ (وہ ہے جو) عرش پر قائم ہے﴾ سُورَةُ طَهِ (20) / آیَتُ 5،

(5) اللہ، ہر ایک چیز کے واحد خالق کافرمان ہے ::

﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا::: رَحْمَنْ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے (سب) کی تخلیق چھ دن میں کی پھر عرش پر قائم ہوا اپس آپ اس کے بارے میں کسی خبر گیر سے ہی پوچھیے﴾ سُورَةُ الْفَرْqَانِ (25) / آیَتُ 59۔

(6) اللہ الْحَكِيمُ کافرمان ہے ::

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ::: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے (سب) کی تخلیق چھ دن میں کی پھر عرش پر قائم

اللہ کہاں ہے؟

ہوا (اللہ کے سامنے) اللہ کے علاوہ تم سب کا کوئی مددگار نہیں اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا کیا تم لوگ یاد نہیں رکھتے ﴿ سورت السجدة (32) آیت 4۔

(7) اللہ الکریم کا فرمان ہے :: :

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَدْجُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَأْخُذُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَوْعِدُكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق چھ دن میں کی پھر عرش پر قائم ہوا وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اُنرتتا ہے اور آسمان میں چڑھتا ہے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو وہ تم لوگوں کے ساتھ ہے اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ وہ سب دیکھتا ہے ﴿

سورت الحدید (57) / آیت 4۔

»»» اس مندرجہ بالا آیت مبارکہ میں ہمارے اس روایت موضوع کی دلیل کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کی بھی وضاحت ہے، جس کے بارے میں اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی "معیت" یعنی اُس کا ساتھ ہونا، جس کے بارے میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات مبارک کے ذریعے کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ دُرُست نہیں ہے کیونکہ اللہ جل جلالہ نے خود ہی اپنی "معیت" کی کیفیت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ وہ سب دیکھتا ہے ﴿ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ہونا اُس کے علم و قدرت، سماعت و بصارت کے ذریعے ہے، نہ کہ اُس کی ذات مبارک کے وجود پاک کے ساتھ کسی کے ساتھ ہونا ہے، ان شاء اللہ اس

اللہ کہاں ہے؟

موضوع پر بات پھر کسی وقت،

(8) اللہ امّعز کا فرمان ہے :: :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلْمُ الطِّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَكْرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُهٌ أُولَئِكَ هُوَيُبُورُ ﴾ جو (کوئی) عزت چاہتا ہے تو (وہ یہ جان رکھے کہ) تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے (یعنی عزت دینے والا وہی ہے) پاک باتیں اُس (اللہ) کی طرف چڑھتی ہیں اور نیک عمل اپنے کرنے والے کو بلند کرتا ہے اور جو لوگ برائیاں کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور ان کی بری چال ہی نیست و نابود ہو گی ﴿ سورت الفاطر (35) / آیت 10 -

(9) اللہ ذی المعارج کا فرمان ہے :: :

﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَ أَبٍ وَاقِعٍ ۝ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۝ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝ سوال کرنے والے نے عذاب کے بارے میں سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے ۝ کافروں کے لیے ، اُس عذاب کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں ۝ اللہ کی طرف سے (اللہ وہی ہے) جو (آسمانوں کی) سیڑھیوں کا مالک ہے ۝ اُس (اللہ) کی طرف فرشتے اور روح (انہی سیڑھیوں کے ذریعے) چڑھتے ہیں ، ایک (ایسے) دن میں جس کی مقدار (تمہاری گنتی کے مطابق) پچاس ہزار سال کے برابر ہے ﴿ سورت المعارج (70) / آیات 1 تا 4 -

(10) اللہ الاعلیٰ کا فرمان ہے :: :

﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاوَاتِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرِجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ : ۖ وَهُوَ (اللہ) آسمان سے لے کر زمین تک (ہر) کام کی تدبیر فرماتا ہے پھر وہ (

اللہ کہاں ہے؟

کام) ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہاری گفتگی کے مطابق ایک ہزار سال ہے اللہ کی طرف چڑھ جاتا ہے ﴿ سورت السجدة (32) / آیت 5 -

(۱۱) اللہ الٰٰ القدیر ﴿ کافرمان ہے :: :

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِنُونَ : : : وَهُوَ (یعنی فرشتے) اپنے اوپر سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اُسی کے مطابق (ہر) کام کرتے ہیں ﴿ سورت النحل (16) / آیت 50 ،

اللہ تعالیٰ کے مندرجہ بالافرائیں سے صاف اور واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ اللہ الٰٰ عالیٰ اپنی تمام تر مخلوق کے اوپر، اُس سے جدا اور بلند ہے، کسی لفظ کی کوئی تشریح یا تاویل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہ درج ذیل فرائیں بھی ذہن میں رکھنے چاہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمाकر، اُن کے اُمیوں کو اُن صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں سے سب سے اہم ذمہ داری بتائی ہے اور ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائیں مبارکہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ قولی اور عملی تفسیر، شرح اور تعلیمات کے مطابق سمجھنا ہے، نہ کہ اپنی عقل و سوچ، مزاج، پسند و ناپسند اور اپنے خود ساختہ جہالت زدہ فلسفوں کے مطابق ::

﴿ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَأَنْذَلْنَا إِلَيْكَ الِّذِيْكَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ : : : اور (اے محمد) ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح فرمائیں کہ اُن کی طرف کیا انتارا گیا ہے اور تاکہ وہ غور کریں ﴿ سورت النحل (16) / آیت 44 ،

اللہ کہاں ہے؟

اور مزید تاکید فرمائی کہ ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوَجُّ مِنْوَنَ : : : اور (اے محمد) ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب صرف اس لیے اتنا ری ہے کہ یہ لوگ جس (چیز) میں (بھی) اختلاف کرتے ہیں آپ ان لوگوں پر (اس کتاب کے مطابق) وہ (چیز) واضح فرمادیجیے، اور (ہم نے یہ کتاب) ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت (بنا کر نازل کی ہے) ﴾ سورت النحل(16) /

آیت 64،

اللہ تعالیٰ کے فرائیں کی تفسیر اور شرح کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے ہر کس و ناکس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے، یا اپنی سوچ و فکر کے مطابق، یا اُس کے ذہن پر مسلط فلسفوں اور شرعاً نامقبول خود ساختہ کسوٹیوں کی بنابر قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی ایسی تفسیر یا شرح کرے جو اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سُنت مبارکہ کے مطابق نہ ہوں، اور جب اُس کی جہالت زدہ سوچیں اور فلسفے قرآن کریم کی ہی آیات شریفہ کے ذریعے مردود قرار پائیں تو آیات شریفہ کی باطل تاویلات کرنے لگے، اور جب اُس کی باطل تاویلات صحیح ثابت شدہ سُنت مبارکہ کے ذریعے مردود قرار پائیں تو سُنت، مبارکہ کا ہی انکار کرنے لگے،

پس اللہ کے مقرر کردہ تفہیم، قُرآن کے اس دُرست ترین منہج کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے تمام تر مخلوق سے جدا، الگ اور بلند ہونے کی صفت کے بیان والی آیات مبارکہ کے بعد اب ہم یہ مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ الرَّحِیْم کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کی ان باتوں اور اللہ کی اس

اللہ کہاں ہے؟

صفتِ علویعنی تمام تر مخلوق سے جدا، الگ اور بُلند ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے ؟
اُس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع
تابعین اور آئندہ رحمہم اللہ جمعیاً کے آقوال، پھر آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ اوپر ہے ؟
یا معاذ اللہ ہر جگہ منتشر جسے عام طور پر ہر جگہ موجود ہونے کے الفاظ میں بھی ذکر کیا
جاتا ہے ؟ یا کہیں اور ؟ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی
اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے جو کچھ اللہ بارے میں بتایا ہے وہ کہنا کفر ہے یا اُس کے خلاف
کہنا ؟؟؟ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ** :: پس عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائیں کے بعد، اب ان شاء اللہ ہم اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ
علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے ارشادات جو بلاشک و شبہ اللہ کی وحی کے مطابق ان صلی اللہ علیہ علی
آلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، ان ارشادات کا مطالعہ کرتے ہیں۔

﴿ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے فرائیں ﴾

اوپر ذکر شدہ آیات مبارکہ کے بعد ان شاء اللہ آحادیث شریفہ ذکر کرتا ہوں آئیے
دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اللہ کی اس صفتِ علویعنی
تمام تر مخلوق سے جدا اور بُلند ہونے کے بارے میں کیا فرمایا ہے ::::

﴿ ۱) ::::: معاویہ ابن الحکم اسلمی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے ””ایک دفعہ
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی امامت مبارکہ میں نماز پڑھ تھا کہ نمازوں
میں سے کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا ””اللہ تم پر رحم کرے ””，
تو لوگوں نے مجھے کن انکھیوں سے دیکھا، تو میں نے کہا ””میری ماں مجھے کھو دے تم
لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو ””，

اللہ کہاں ہے؟

تو ان سب نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارے، تو میں جان گیا کہ یہ لوگ مجھے خاموش کروار ہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا،

میرے ماں باپ اُن صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پر قربان ہوں میں نے اُن صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سے پہلے اور نہ ہی بعد میں اُن صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی طرح بہترین تعلیم دینے والا اچھا استاد کوئی نہیں دیکھا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے، تو انہوں نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ ہی مجھے مارا نہ مجھے برا کہا، بلکہ صرف اتنا فرمایا کہ ﴿إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْدُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالْتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ﴾ اُو کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم :: یہ نماز ہے اس میں انسانوں کی باتیں جائز نہیں ہیں یہ (نماز) تو تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرآن پڑھنا ہے ﴿يَا جِعْسَى بْنَ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَعَّلَمُ عَرْضَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا رِجَالًا يَأْتُونَ إِلَكُّهَانَ﴾ یا رسول اللہ میں ابھی ابھی جاہلیت میں تھا، اور اللہ ہمارے پاس اسلام لے کر آیا اور ہم میں سے کچھ لوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں "،

تو ارشاد فرمایا ﴿فَلَا تَأْتِهِمْ ثُمَّ أُنَّ (کا ہنوں) کے پاس مت جانا ﴾ ،

میں نے پھر عرض کیا " " " وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ " " " ہم میں سے کچھ لوگ پرندوں کے ذریعے شگون لیتے ہیں " " "

تو ارشاد فرمایا ﴿قَالَ ذَاكَ شَيْءٌ يَجُدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ﴾ :: یہ ایسی چیز ہے جو وہ لوگ اپنے سینوں میں پاتے ہیں لیکن یہ کام انہیں (اپنے کاموں) سے روکے نہیں ﴿

اللہ کہاں ہے؟

(یعنی شگون وغیرہ مت لیا کریں ورنہ اس بد عقیدگی کی وجہ سے شگون بازی کرنے والے لوگ اپنے کاموں سے رُک جاتے ہیں اور انہیں اپنے کاموں سے رکنا نہیں چاہیے)،

قال بن الصَّبَاحِ ﴿فَلَا يَصْدِّنُكُم﴾

ابن الصباح (امام مسلم رحمہ اللہ کی طرف سے سند میں سب سے پہلے راوی رحمہ اللہ) کا کہنا ہے کہ ﴿يَهُ شَغْوَنْ بَازِيْ شَهْيَسْ (اپنے کاموں) سے مت روکے﴾ (آگے پھر معاویہ بن الحکم رضی اللہ کا کہنا ہے) پھر میں نے عرض کیا " " " " " " وَمِنَّا رِجَالٌ يَخْطُونَ :: هم میں سے کچھ لوگ لکھریں بناتے ہیں " " " (یعنی زانچہ بازی کرتے ہیں جو کاہنوں کے کاموں میں سے ہے)،

توارشاد فرمایا ﴿كَانَ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُلُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ :: نبیوں (عَلَيْهِمْ السَّلَامُ) میں سے ایک نبی خط کشی کیا کرتے تھے پس اگر کسی کا خط اس نبی (علیہ السلام) کے خط کے موافق ہو جائے تو توثیق ہے﴾

(یہ ایک ناممکن کام ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی اور ان کو دیے جانے والے خصوصی علوم میں سے یہ ایک علم ایک نبی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، لہذا اس علم کا حصول جو صرف وحی کے ذریعے کسی نبی یار رسول کو خاص طور پر دیا گیا ہو، کسی غیر نبی کے لیے ناممکن ہے، اور یہی بات سمجھانے کے لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ بیان اختیار فرمایا ہے)،

پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش آنے والے اپنے ایک اور واقعہ کاذک کیا کہ ::

اللہ کہاں ہے؟

""" میرے پاس ایک باندی ہے جو احمد (پھاڑ) کے سامنے اور ارد گرد میری بکریاں چڑایا کرتی تھی ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی (نگرانی میں میری) جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک کو بھیڑیا لے گیا، میں آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوں جس طرح باقی سب آدمی غمگیں ہوتے ہیں میں بھی اسی طرح غمگیں ہوتا ہوں، لیکن میں نے (اس غم میں) اسے ایک تھپڑ مار دیا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے پاس آیا کیونکہ اسے تھپڑ مارنا میرے لیے (دل پر) بڑا (بوجھ) بن گیا تھا، میں نے عرض کیا " اے اللہ کے رسول کیا میں اسے آزاد نہ کرو دوں؟ " ،

تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ﴿ اُتِّینِ بَهَا : : اُسْ بَانِدِيْ کُو

میرے پاس لاو ﴿

فَأَتَيْتُهُ بَهَا : : : تو میں اس باندی کو لے کر (پھر دوبارہ) حاضر ہوا،

تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا ﴿ أَيْنَ اللَّهُ : : اللَّهُ

کہاں ہے؟ ﴿

قالت فِي السَّيَاءِ : : اس باندی نے جواباً عرض کیا " آسمان پر " ،

پھر دریافت فرمایا ﴿ مَنْ أَنَا : : میں کون ہوں؟ ﴿

قالت أنت رسول اللہ : : اس باندی نے جواباً عرض کیا " آپ اللہ کے رسول ہیں " ،

تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا ﴿ أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ : : اسے

آزاد کرو دو یہ ایمان والی ہے ﴿

صحیح مسلم / حدیث 537 / کتاب المساجد و مواضع الصلاة / باب 7، باب تحریم الکلام فی الصلاۃ و نسخ ما کان

اللہ کہاں ہے؟

من اباحتہ۔

ذرا غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے باندی سے کیا پوچھا اور اُس باندی نے کیا جواب دیا؟؟؟
 غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے اُس باندی کا ایمان جانچنے کے لیے، اُس کے ایمان کی درستگی جانچنے کے لیے، صرف دو باتیں دریافت فرمائیں، اللہ کی ایک ذات مبارک کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کہاں ہے؟
 ایمانیات کے بارے میں کوئی تفصیل دریافت نہیں فرمائی، اور ان صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم کی اپنی ذات مبارک کے بارے میں ایک سوال فرمایا کہ ان کی حیثیت و رتبہ کیا ہے؟، اور اُس باندی کے مختصر سے جواب کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے اُس کے ایمان والی ہونے کی گواہی دی، جس جواب میں اللہ کی ذات مبارک کے بارے میں اُس باندی نے یہ کہا کہ "اللہ آسمان پر ہے" ، اب ذرا کچھ مزید توجہ سے غور فرمائیے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کفر ہے کہ وہ اوپر ہے، آسمانوں سے اوپر ہے، اپنی تمام تر مخلوق سے اوپر ہے، تو پھر اس بات پر، یا ایسا کہنے والوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے لوگ سچے ہیں؟ یا اُس باندی کو ایمان والی قرار دینے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم ان پر میرے باپ قربان ہوں سچے ہیں؟؟؟؟؟

اس حدیث شریف کو عموماً " حدیث الجاریہ " کہا جاتا ہے، اس حدیث شریف میں اور بھی بہت سے مسائل میسر ہوتے ہیں، الحمد للہ ان سب کا ذکر ایک الگ مضمون " حدیث الجاریہ "، ایک حدیث میں 9 مسائل کا بیان " " میں کرچکا ہوں۔

اللہ کہاں ہے؟



(2) ::::: أبوہریرہ رضی اللہ عنہ کافرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الْدُّنْيَا حِينَ يَئْتِيَنَّ فَأَغْفِرَ لَهُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهُ مَنْ يَسْتَغْفِرِنِي فَأَغْفِرَ لَهُ :: جب رات کا آخری تیسرا پھر ہوتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات میں دُنیا کے آسمان کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے " " کون ہے جو (اس وقت) مجھ سے دُعا کرے کہ میں اُسکی دُعا قبول کروں ، کون ہے جو (اس وقت) مجھ سے کوئی سوال کرے کہ میں اُسکا سوال پورا کروں ، کون ہے جو (اس وقت) مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اُسکی مغفرت کروں " " ﴿صَحْحُ البُجَارِي / ابواب التَّهْجِيد / بَابُ 14، صحیح مسلم / حدیث 758، کتاب صلاۃ المسافرین و قصرها / باب 24 - .

● ● ● قارئین کرام ، اس مذکورہ بالا حدیث شریف کو بھی غور سے پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے رب اللہ عز وجل کے بارے میں کیا فرم رہے ہیں ، پس اگر یہ کہنا ہے کُفر ہے کہ اللہ اُپر ہے تو کُفر کا فتویٰ لگانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کیا فتویٰ لگائیں گے ؟؟؟



(3) ::::: أبوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ﴿يَتَعَاقَبُونَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرِجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيْكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَا هُمْ وَهُمْ يُصْلِلُونَ وَأَتَيْنَا هُمْ وَهُمْ يُصْلِلُونَ :: رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے تم لوگوں میں ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور نمازِ عصر اور نمازِ فجر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں (یعنی فرشتوں کا ایک گروہ فجر کے وقت

اللہ کہاں ہے؟

آتا ہے اور عصر تک رہتا ہے، یہ دن کے فرشتے ہیں اور دوسرا گروہ عصر کے وقت آتا ہے اور فجر تک رہتا ہے یہ رات کے فرشتے ہیں) پھر وہ فرشتے جنہوں نے تمہارے درمیان رات گذاری ہوتی ہے (یعنی عصر کے وقت آنے والے فرشتے) اُپر (اللہ کی طرف) چڑھتے ہیں تو (وہاں) ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، جبکہ وہ بندوں کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کیس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے ﴿ صحیح مسلم / حدیث 632 / کتاب المساجد و مواضع الصلاة / باب 37 کی پہلی حدیث ، صحیح البخاری / حدیث 555 / کتاب مواقيت الصلاة / باب 16 کی دوسری حدیث ، صحیح ابن خزیمہ / حدیث 321 / کتاب الصلاة / باب 12 ذکر اجتماع ملائكة اللیل وملائكة النهار فی صلاۃ الفجر وصلاۃ والعصر جبیعاً ودعاء الملائكة لین شهد الصلاتین جبیعاً کی پہلی حدیث ، صحیح ابن حبان / حدیث 1736 / کتاب الصلاة / باب 9، مؤطمالک / حدیث 416 / کتاب قصر الصلاة / باب 24، مسند احمد / مسند ابی هریرہ رضی اللہ عنہ ، سنن النسائی / حدیث 489 / کتاب الصلاة / باب 21۔

(4) : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ﴿ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةٌ سَيَّارَاتٌ فُضْلًا يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الدِّينِ كَفَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَئْلُؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيَّارَاتِ الدُّنْيَا فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّيَّارَةِ - قَالَ - فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مِنْ أَيْنَ جَعْتُمْ فَيَقُولُونَ

اللہ کہاں ہے؟

جِئْنَا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا فِي الْأَرْضِ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَهْلِكُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ : :: بے شک اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو (زمین میں) چلتے پھرتے ہی رہتے ہیں، اور (اللہ کے) ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں (اللہ کا) ذکر ہو رہا ہو تو وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پیروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے اور دُنیا والے آسمان کے ساری جگہ میں وہ فرشتے بھر جاتے ہیں، اور پھر جب الگ ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف چڑھتے اور بُلند ہوتے ہیں - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا۔ تو (وہاں) اللہ عز وجل فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ "تم سب کہاں سے آئے ہو؟" جبکہ اللہ فرشتوں کے بارے میں خود ان سے زیادہ جانتا ہے، تو فرشتے جو باعرض کرتے ہیں "هم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں آپ کی پاکیزگی، اور آپ کی بڑائی، اور الوحیت میں آپ کی واحدانیت، اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور آپ سے سوال کرتے ہیں" ﴿ صحیح مسلم / حدیث

7015/كتاب الذكر والدعاء والتوبه /باب 8،

CCC قارئین کرام، ملاحظہ فرمائیے، اور بغور ملاحظہ فرمائیے کہ ان دونوں احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا اللہ کی طرف چڑھنے کا ذکر فرماتے ہیں، اور غور فرمائیے کہ چڑھا اور کی طرف جاتا ہے یا کسی اور طرف؟؟؟

CCC اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات مبارک کے ساتھ ہر جگہ موجود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے اللہ کی طرف چڑھنے کا ذکر نہ فرماتے، بلکہ کچھ یوں کہا جاتا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے

اللہ کہاں ہے؟

الہندا فرشتوں کو کہیں سے کہیں، کسی طرف جانے، چڑھنے اترنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

 (5) ::::: آبی سعید الخُدْرِی رضی اللہ عنہ یمن سے لائی جانے والی زکوٰۃ کی تقسیم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مَّنْ فِي السَّيَاءِ، يَأْتِينِي خَبْرُ السَّيَاءِ صَبَابًا وَمَسَاءً﴾ کیا تم لوگ مجھے امانت دار نہیں جانتے جبکہ میں اُس کی طرف سے امانت دار ہوں جو آسمان پر ہے، اور مجھے صبح و شام آسمان سے خبر آتی ہے ﴿صَحْحُ البُجَارِي / حديث 4351 / كتاب المغازى باب 61 کی تیسرا حديث، صحيح مسلم / حديث 2500 / كتاب الزكاة / باب 48 - 48 .

● ● ● ایک دفعہ پھر غور فرمایے محترم قارئین کہ وہ کون ہے جس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار مقرر تھے ؟؟؟ جس نے اپنے پیغامات اور احکامات کو امانت داری سے اُس کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی ؟؟؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے، اور بے شک وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور بے شک اسی کی طرف سے آسمانوں کے اوپر سے صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آتی تھی۔

 (6) ::::: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ﴿مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ تَهْرَةٌ مِّنْ كَسِّبٍ طَيْبٍ، وَلَا يَصْحَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَيْبٌ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرِيَ أَحَدُكُمْ فَلُوْهُ، حَتَّىٰ

اللہ کہاں ہے؟

تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ :: جس نے پاک (حلال) کمائی سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا اور (یاد رکھو کہ) اللہ کی طرف پاکیزہ (چیز) کے علاوہ اور کچھ نہیں چڑھتا تو اللہ اُس صدقہ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور اُس صدقہ کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتا ہے یہاں تک وہ پہلاں کے برابر ہو جاتا ہے ﴿ صحیح البخاری / حدیث

7430 / کتاب التوحید / باب 23۔

● ● ● اس مذکورہ بالا حدیث شریف میں بھی بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں بلکہ بلندی پر ہے، اور جیسا کہ پہلے ذکر کردہ آیات شریفہ اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ وہ بلندی آسمانوں سے بھی بلند، عرش سے بھی اوپر ہے،

اس حدیث مبارکہ میں ہمارے رواں موضوع کے علاوہ دو اور اہم مسائل کا فیصلہ بھی ہے:::

(1)::: اللہ حلال و پاک چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، اور،
 (2)::: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مختلف خود ساختہ تاویلات کرتے ہیں وہ اتنا ہی خیال کر لیا کریں کہ کوئی کچھ بھی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو جاننے والا نہیں ہو سکتا، پس اگر وہ کوئی ایسی بات کہتا یا مانتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف و نافرمان ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف و نافرمان ہوا وہ اللہ کا مخالف و نافرمان ہوا، کیونکہ ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ :: اور جس نے رسول کی تابع فرمائی کی اُس

اللہ کہاں ہے؟

نے اللہ کی ہی تابع فرمانی کی ﴿ سورت النساء آیت 80،

اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى کے اس فرمان کا مفہوم یہ ہوا کہ ”جس نے رسول صلی اللہ علیہ و علی آله وسلم کی نافرمانی کی اُس نے اللہ کی نافرمانی کی“ -

(7) ::::: آبی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آله وسلم نے فرمایا ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو أُمْرَاتَهُ إِلَى فَرَاسَهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّيَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا : : اُس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بیوی انکار کرے تو وہ جو آسمان پر ہے اُس عورت سے اُس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اُس عورت کا خاوند اُس سے راضی نہیں ہوتا ﴿ صحیح مسلم / حدیث 1436 / کتاب النکاح، باب 20 کی دوسری حدیث۔

CCC جی، کون ہے جو اپنے خاوند کی بات نہ ماننے والی عورت پر ناراض ہوتا ہے، اور وہ ناراض ہونے والا آسمان سے اُپر ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔

(8) ::::: عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آله وسلم نے فرمایا ﴿ الرَّاحِمُونَ يَرَحِمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرَحِمُكُمْ مَنْ فِي السَّيَاءِ : : رحم کرنے والوں پر رحم رحم کرتا ہے، تم ان پر رحم کرو جو زمین پر ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے ﴿ سُنن الترمذی / حدیث

1924 / کتاب البر والصلة / باب 16 کی تیسرا حدیث امام الترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے، سُنن أبو داود / حدیث 4931 / کتاب الأدب / باب 66 کی پہلی حدیث، مصنف ابن أبي شيبة / کتاب الأدب / باب 4، سلسلة الأحادیث الصحیحة / حدیث

اللہ کہاں ہے؟

-925-

کون ہے، جو آسمانوں کے اوپر ہے اور زمین پر رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، الرحمن، یقیناً اللہ پاک ہی ہے اور آسمانوں سے اوپر ہی ہے۔

(۹) ::::: آبی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم نے فرمایا ﴿لَّهَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عَنْ دُكَانِهِ فَوَقَ الْعَرْشَ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَبَّبِي﴾ جب اللہ تخلیق مکمل کر چکا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہو گی وہ کتاب اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر ﴿ صحیح البخاری / حدیث 3194 / کتاب بدای الخلق / پہلے باب کی پہلی حدیث، صحیح مسلم / حدیث 2751 / کتاب التوبہ / باب 4 پہلی حدیث۔

محترم قارئین، یہاں رُک کر، ایک دفعہ پھر غور فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم صاف بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ہر جگہ نہیں،

آئیے دیکھتے ہیں کہ عرش کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عرش یہیں کہیں ہوا اور اللہ بھی ؟؟؟

(۱۰) ::::: آبی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم نے فرمایا ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الْتِي وُلِدَ فِيهَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الْتِي وُلِدَ فِيهَا جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ نَمازَ ادا کرتا رہا اور رمضان کے روزے رکھتا رہا، تو اللہ پر (اُس کا) یہ حق ہے کہ اللہ اُسے جنت میں داخل کرے خواہ اُس نے

اللہ کہاں ہے؟

اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اپنی بستی میں ہی زندگی گذاری ہو ﴿۱﴾

صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا::: اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةً أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَقَاسِلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ﴾::: اللہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک سو درجات بنارکھے ہیں، ہر دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، لہذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ جنت کا درمیانی اور سب سے بلند مقام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اُس کے اوپر رحمان کا عرش ہے جس میں سے جنت کے دریا پھوٹتے ہیں ﴿ صحیح البخاری / حدیث 2790 / کتاب الجہاد والسیر / باب 4 ، حدیث 1 -

امام بخاری نے اس حدیث کی روایت کے بعد تعلیقاً لکھا کہ محمد بن فلیح نے اپنے والد سے روایت کیا ہے ﴿ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ : : اوپر اُس سے اوپر رحمان کا عرش ہے ﴾ یعنی اوپر ذکر کردہ روایت میں راوی کی طرف سے اس جملے کے بارے میں جو لفظ " " " " " " " " کے ذریعے شک کاظہار ہوا ہے وہ اس دوسری سند کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ

والمنة،

CCC اس حدیث مبارک کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عرش جس سے اوپر اللہ تعالیٰ خود مستوی ہے، وہ عرش فردوس الاعلیٰ سے بھی اوپر ہے، یہیں کہیں نہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پاک کے ساتھ ہر جگہ موجود یا قائم نہیں۔

اللہ کہاں ہے؟

(11) :::: جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے فرمایا ﴿ مَن لَا يَرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ لَا يُرْحَمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ جوان پر رحم نہیں کرتا جو زمین پر ہیں اُس پر وہ رحم نہیں کرتا جو آسمان پر ہے ﴿  المجمع الكبير

للطبرانی / حدیث 2497، الترغیب والترھیب / حدیث 3411، امام المنذری رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ (امام) طبرانی (رحمہ اللہ) نے یہ حدیث بہت اچھی اور مضبوط سند سے روایت کی ہے، اور امام الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تائید کی ہے اور اس حدیث شریف کو "صحیح لغیرہ" قرار دیا، صحیح الترغیب والترھیب، حدیث 2255 -

(12) :::: سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے فرمایا ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حِيَّ كَرِيمٌ يَسْتَحِيَ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يُرَدِّهَا صَفْرًا ﴾ تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بہت حیاء کرنے والا اور بزرگی والا ہے، جب اُس کا کوئی بندہ اُس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ اس بات سے حیاء کرتا ہے کہ وہ اُس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹادے ﴿ 

سنن أبو داؤد / حدیث 1485، سنن الترمذی / حدیث 3556 / کتاب الدعوات، امام الالبانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے،

اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو آگے پیچھے دائیں دائیں کسی بھی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کر لی جانی چاہیے، آسمان کی طرف، اوپر کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟

کیسا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے والے لوگ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دوران، دعا نظریں اٹھا اٹھا کر بھی

اللہ کہاں ہے؟

آسمان کی طرف، اُپر کی طرف دیکھتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ ہم جس اللہ سے دُعا مانگ رہے ہیں وہ اُپر ہی ہے۔

 (13) : : : : عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم نے فرمایا ﴿إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الظَّلُومَ فَإِنَّهَا تَصْدُدُ إِلَى السَّبَاءِ كَأَنَّهَا

شُّرٌّا ر : : : مظلوم کی بدُعا سے ڈرو کیونکہ وہ چنگاری کی طرح آسمان کی طرف چڑھتی ہے

 المستدرک علی الصحیحین للحاکم ، معروف ب المستدرک الحاکم / حدیث 81 ، امام

الحاکم نے کہا کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے ، اور امام الالبانی نے بھی صحیح قرار دیا ، السسلہ الصحیحہ / حدیث 871 ،

 مظلوم کی دُعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے ، کیوں اُس طرف چڑھتی ہے ؟ ؟ ؟

اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود و قائم ہے تو پھر دُعا کو کسی بھی طرف چل پڑنا چاہیے ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم کی عطا کردہ اس خبر کے مطابق تو مظلوم کی دُعا آسمان کی طرف چڑھتی ہے ، کیونکہ وہاں تمام تر مخلوق سے بلند ، الگ اور مجد ان کا آکیلا خالق اللہ ہوتا ہے ، جس نے دُعائیں قبول ورد کرنا ہوتی ہیں ،

 اس حدیث پاک میں ہمیں مظلوم کی طرف سے کی جانے والی بدُعا سے بچنے کی تعلیم بھی دی گئی ہے ، یعنی ظلم کرنے سے باز رہنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ جب ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے تو کوئی بحثیت مظلوم ہمارے لیے بدُعا نہیں کرے گا مظلوم کی بدُعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم کا یہ فرمان بھی

ہے کہ ﴿إِنَّكُمْ تَدْعُونَ الظَّلُومَ فَإِنَّهَا لَيْسَ بِيَنَّهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ : : : مظلوم کی بدُعا سے بچو کیونکہ اس کے درمیان کوئی پرده نہیں ہوتا ﴾ صحیح البخاری

اللہ کہاں ہے؟

(15) ::::: جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ رسوی اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم کا خطبہ حج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم نے فرمایا ﴿ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ﴾ اور تم لوگوں کو میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے ﴿

سب نے جواب دیا ” ” نَشَهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ : : : هم گواہی دیں گے کہ آپ نے (اللہ کے پیغامات کی) تبلیغ فرمادی، اور (رسالت و نبوت کا) حق ادا کر دیا اور نصیحت فرمادی ” ”

﴿ قَالَ إِنِّي أَصْبِعُهُ السَّبَابَةَ يُرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ : : : تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی سے لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے پھر اُسے آسمان کی طرف اٹھاتے اور ارشاد فرمایا ، اللَّهُمَّ اشْهِدِ اللَّهَمَّ اشْهِدُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : : : اے اللہ گواہ رہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم نے ایسا تین مرتبہ کیا اور فرمایا ﴿ صحیح مسلم / حدیث 1218 / اکتاب الحج / باب 19، حجۃ البنی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم -

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم کے ان فرایں میں صاف صاف واضح طور پر یہ تعلیم دے گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اُپر ہے اور اپنی تمام مخلوق کے تمام احوال جانتا ہے، امید تو نہیں کہ کوئی صاحبِ ایمان اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آکہ وسلم کے یہ فرایں پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود سمجھتا رہے، اور اللہ کو اُپر کہنے کو کفر کہے،

مزید تسلی و تشغی کے لیے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں لکھا تھا، اسی ترتیب کے مطابق ان شان اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے اقوال پیش کروں گا،

اللہ کہاں ہے؟

اور ان شاء اللہ اُس کے بعد اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بالخصوص اپنے ایسے مسلمانوں بھائیوں بہنوں کے لیے جو اپنے اپنے اختیار کردہ آئمہ کرام رحمہم اللہ، یا علماء رحمہم اللہ و حفظہم کی بات کو ہی فوقيت دینا دین سمجھتے ہیں، خواہ ان کی بات اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی موافقت نہ رکھتی ہو، میرے وہ بھائی بہن پھر بھی انہی باتوں کو درست مانتے ہیں، ایسے بھائیوں بہنوں کے لیے امت کے اماموں کے اقوال نقل کروں گا تاکہ ان کے لیے بھی مزید تسلی کا باعث ہو جائے ان شاء اللہ، اور حق جاننے اُسے سمجھنے اور اُس پر ایمان لانے کی توفیق اللہ ہی دینے والا ہے۔

ان شاء اللہ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین اور آئمہ رحمہم اللہ جمعیاً کے اقوال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے متعلق اس اہم عقیدے کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا جواب پیش کروں گا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال

سابقہ ذکر شدہ آیاتِ قرآنیہ کے اور احادیثِ نبویہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والسلام کے بعد اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال ملاحظہ فرمائیے،

(۱) :: عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں "رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بلا فضل خلیفہ امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اُن صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے اور جھک کر اُن صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو

ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا { } بِأَيْ وَأَمِّي ، طِبْتَ حَيَا ، وَطِبْتَ مَيِّتا : : آپ پر میرے باپ اور ماں قربان ہوں آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور مر کر بھی پاکیزہ ہیں

اللہ کہاں ہے؟

{ } اور پھر باہر تشریف لائے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا { } آیتہ النّاسُ، إِنَّ كَانَ مُحَمَّدًا إِلَهَكُمْ الَّذِي تَعْبُدُونَ، فَإِنَّ إِلَهَكُمْ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَإِنَّ كَانَ إِلَهَكُمْ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّ إِلَهَكُمْ لَمْ يَمْتُ مَوْتًا لَوْ كُوْنَوْا كُوْنَوْا لوگوں کا معبد وہ ہے جو آسمان پر ہے تو پھر تمہارا معبد نہیں مرا، ، ، ، { } " " " " ،

امام بخاری کی "التاریخ الکبیر" حدیث 623، مصنف ابن ابی شیبہ / حدیث 37021، امام الذہبی اور امام السحاوی نے اسے صحیح قرار دیا۔

(2) :: قیس رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں " " " " جب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو وہ اپنی اونٹی پر سوار تھے، لوگوں نے ان سے کہا اگر آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو اچھا تھا کیونکہ آپ سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا { } { } { } آلَّا أَرَأَكُمْ هَاهُنَا، إِنَّمَا الْأَمْرُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى السَّمَاءِ :: کیا میں تم لوگوں کو یہاں سے دکھائی نہیں دے رہا، بلاشک فیصلے تو وہاں سے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث 34443/33844، امام الالبانی نے کہا کہ اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔

(3) :: الحافظ القاضی ابو احمد محمد بن احمد العسال الصبحانی رحمہ اللہ تعالیٰ

اللہ کہا ہے؟

نے روایت کی کہ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا { { جس نے کہا " " سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ : : اللہ پاک ہے اور خالص تعریف اللہ کی ہی ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے " " تو ان الفاظ کو لے کر ایک فرشتہ اللہ عز و جل کی طرف چڑھتا ہے، اور جن جن فرشتوں کے پاس سے وہ گزرتا ہے وہ فرشتے یہ الفاظ کہنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ ان الفاظ سے رحمان کا چہرہ خوش ہو جاتا ہے } } امام شمس الدین الذهبی نے " " العلو للعلی الغفار " " میں کہا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔

(4) :: امام عثمان بن سعید الدارمی نے " " الرد على الجهمیة " " میں صحیح سند کے ساتھ عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا { { کبھی کسی بندے کو تجارت و حکومت کی خواہش ہوتی ہے اور جب وہ کام اُس کے لیے آسان ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُس کی طرف ساتوں آسمانوں کے اوپر سے دیکھتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے : : ان کاموں کو اس بندے سے دور کر دو اگر یہ کام میں نے اس کے لیے مہیا کر دیئے تو یہ کام اسے جہنم میں داخل کرنے کا سبب بن جائیں گے } } امام ابن القیم نے بھی " الحجیوں الاسلامیہ " میں اس روایت کی سند کو درست قرار دیا ہے۔

(5) :: ابن ابی مليک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ " " ایمان والوں کی والدہ محترمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور محبوبہ بیگم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت کی بیماری کے وقت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اُن کے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا " " مجھے اُس سے کوئی کام نہیں " " ،

اللہ کہا ہے؟

تو عبد الرحمن بن أبي بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما (أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَاشَهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَبِيرًا) نے کہا "..... امی جان ابن عباس آپ کے نیک بیٹوں میں سے ہے اور آپ کی عیادت (مزاج پُرسی) کے لیے آیا ہے ".....،

تو ایمان والوں کی امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو آنے کی اجازت دی، عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مزاج پُرسی کی، اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا

{ {،،،،،،، وَأَنْزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَيَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِينُ : : : : : } } ، اور آپ (تو وہ ہیں جس) کی پاکیزگی (کی گواہی) اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے نازل کی جسے جبریل آمین لے کر آئے } } } المستدرک الحاکم / حدیث 6726،
امام الحاکم اور امام الذہبی نے صحیح قرار دیا، مسند احمد / حدیث 2496۔

 (6) : : انس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ (ایمان والوں کی والدہ محترمہ) زینب (بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیگمات کو فخر کے ساتھ کہا کرتی تھیں { { } } زَوْجَكُنَّ أَهَالِيْكُنَّ وَ زَوْجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَيَاوَاتٍ : : : : : ثم لوگوں کو تمہارے خاندان والوں نے بیاہا اور میری شادی اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے کی } } } } ، دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کرتی تھیں { { } } إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّيَاءِ : : : اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح آسمان پر کیا } } } } صحیح البخاری / حدیث 7420، 7421 / کتاب التوحید / باب 22 کی تیسرا اور چوتھی حدیث۔

اللہ کہاں ہے؟

صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال مبارکہ کے بعد اب ان شاء اللہ تابعین اور تابعین رحمہم اللہ کے اقوال پیش کروں گا، اور ان کا آغاز امت کے چار بڑے معروف اور مروج مذاہب کے اماموں رحمہم اللہ سے شروع کروں گا۔

❖ ❖ ❖ ❖ چاروں اماموں رحمہم اللہ کے اقوال ❖ ❖ ❖ ❖

تابعین اور تابعین کے اقوال میں سب سے پہلے امت کے چار بڑے صاحبِ مذهب اماموں رحمہم اللہ کے اقوال پیش کر رہا ہوں،
قارئین کرام، خیال رہے کہ یہ اقوال ان چاروں بڑے اماموں رحمہم اللہ کے زمانے کی ترتیب کے مطابق ہیں، کسی کا ذکر پہلے یا کسی کا بعد میں ہونے سے اُن کی درجہ بندی مقصود نہیں،

❖ ❖ ❖ ❖ امام نعمن بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تاریخ وفات 150 ہجری ❖ ❖ ❖ ❖

آبوا اسماعیل الانصاری اپنی کتاب ”الفاروق“ میں آپی مطیع الحکم بن عبد اللہ البلحی الحنفی، جنہوں نے فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ”الفقہ الاکبر“ لکھی، جسے غلط عام طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے، ان آپی مطیع کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا ”جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا رب زمین پر ہے یا آسمان پر تو ایسا کہنے والا کے بارے میں کیا حکم ہے؟“،

تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا { { تو اُس نے کفر کیا کیونکہ اللہ کہتا ہے ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى:: الرَّحْمَنُ عَرْشَ پَرْ قَاتَمْ ہوا ﴾ اور اُسکا عرش ساتوں آسمانوں کے اُپر ہے } } ،

میں نے پھر پوچھا ”اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کا عرش آسمان پر یا زمین پر

اللہ کہاں ہے؟

ہے (تو پھر اسکا کیا حکم ہے)؟ " " " ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا { } ایسا کہنے والا کافر ہے کیونکہ اُس نے اس بات سے انکار کیا کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور جو اس بات سے انکار کرے وہ کافر ہے } } } -

حوالہ جات :: مختصر العلو لعلی الغفار / دلیل رقم 118 / صفحہ 136 / مؤلف امام شمس الدین الذھبی رحمہ اللہ / تحقیق و تخریج امام ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ، ناشر مکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، دوسری اشاعت، شرح عقیدہ الطحاویہ / صفحہ رقم 288 / ناشر مکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، نویں اشاعت،

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے تو پہلے اُن سے منسوب فقهہ کے اماموں کی بات نقل کرتا چلوں،

﴿ امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی، رحمہ اللہ، تاریخ وفات 321 ہجری ﴾ اپنی مشہور و معروف کتاب " " " عقیدہ الطحاویہ " " " میں کہتے ہیں { } اللہ عرش اور اُس کے علاوہ بھی ہر ایک چیز سے غنی ہے اور ہر چیز اُس کے آحاطہ میں ہے اور **وہ ہر چیز سے اوپر ہے** اور اُس کی مخلوق اُس کا آحاطہ کرنے سے قاصر ہے } } } ،

امام صدر الدین محمد بن علاء الدین (تاریخ وفات 792 ہجری) رحمہ اللہ، جوابن آبی العز الحنفی کے نام سے مشہور ہیں، اس " " " عقیدہ الطحاویہ " " " کی شرح میں امام الطحاوی رحمہ اللہ کی اس مندرجہ بالا بات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ { } یہ بات پوری طرح سے ثابت ہے کہ اللہ کی ذات مخلوق سے ملی ہوئی نہیں (بلکہ الگ اور جدا ہے) اور نہ اللہ نے مخلوقات کو اپنے اندر بنایا ہے } } } ،

اللہ کہاں ہے؟

(یعنی اللہ کا ہر چیز پر محیط ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ مخلوقات اُس کے اندر ہیں بلکہ وہ محیط ہے اپنے علم کے ذریعے، اس کے دلائل ابھی آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ)،
 پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوق سے جدا، بُلند اور اوپر ہونے کے دلائل میں میں وارد ہونے والی نصوص کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ نصوص تقریباً میں اقسام میں ہیں، اور پھر انہی اقسام کو بیان کرتے ہوئے سولہویں قسم (نمبر 16) کے بیان میں لکھا { { فرعون نے (بھی) موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانا تھا کہ اُن کا رب آسمانوں پر ہے اور اس بات کا مذاق اور انکار کرتے ہوئے کہا ﴿يَا هَامَانُ أَبْنِ لِي صَرْحًا عَلَىٰ أَبْدُلُغُ الْأَسْبَابِ ۝ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطْلَدَ عَلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظْنُهُ كَاذِبًا ۝ ۝ : اے هامان میرے لیے بلند عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں ۝ ۝ آسمان کے راستوں تک، (اور اُن کے ذریعے اوپر جا کر) موسیٰ کے معبد کو جھانک کر دیکھ لوں اور بے شک میں اسے (یعنی موسیٰ کو) جھوٹا سمجھتا ہوں ﴿ سورت غافر (40)
 آیت 36، 37) لہذا جو اللہ تعالیٰ کے (اپنی مخلوق سے الگ اور) بُلند ہونے کا انکار کرتا ہے وہ فرعونی اور جہنمی ہے اور جو اقرار کرتا ہے وہ موسیٰ اور محمدی ہے } } } -
 حوالہ :: شرح عقیدہ الطحاویہ / صفحہ رقم 287 / ناشر مکتب الاسلامی، بیروت،
 لبنان، نویں اشاعت،

قارئین کرام، یہ مذکورہ بالاشدید فتوے میرے نہیں ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کے اماموں رحمہم اللہ کے ہیں، لہذا کوئی بھائی یا بہن انہیں پڑھ کر ناراض نہ ہو۔

﴿ امام مالک ابن انس، رحمہ اللہ، تاریخ وفات 179 ہجری ﴾

محمدی بن جعفر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس

اللہ کہاں ہے؟

ایک آدمی آیا اور اُس نے کہا،
”اے أبو عبد اللہ ﷺ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى :: الرَّحْمَنُ عَرْشَ پُر قَاتَمْ ہوا“ کیسے قاتَمْ ہوا؟“

اس سوال پر امام مالک رحمہ اللہ اتنے غصے میں آئے کہ میں نے انہیں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا کہ غصے کی شدت سے امام صاحب پسینے پسینے ہو گئے، اور امام رحمہ اللہ بالکل خاموش ہو گئے، لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب امام صاحب کیا کہیں گے!

کافی دیر کے بعد امام رحمہ اللہ نے فرمایا { { (اللہ کا عرش پر) قاتَمْ ہونا (یعنی استوی فرمانا) آنجانی خبر نہیں } } ، اور (اللہ کے استوی فرمانے کی) کیفیت عقل میں آنے والی نہیں (کیونکہ اُس کی ہمارے پاس اُس کیفیت کے بارے میں کوئی خبر نہیں نہ اللہ کی طرف سے اور نہ ہی اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے) اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم گمراہ ہو } } } ، پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اُس آدمی کو مسجد (نبوی) سے نکال دینے کا حکم دیا اور اُس کو نکال دیا گیا۔

حوالہ :: اثبات الصفة العلو / روایت 104 / مؤلف امام موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامة المقدسي۔

امام الذہبی نے کہا کہ یہ قول امام مالک سے ثابت ہے، اس کے علاوہ یہ قول امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے ایک استاد سے بھی ثابت ہے، ان شاء اللہ تابعین کے ذکر میں، ان کا ذکر کروں گا۔

عبد اللہ بن نافع رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا { { { اللہ

اللہ کہاں ہے؟

آسمان پر ہے اور اُس کا علم ہر جگہ ہے اور اُس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ॥ ॥ ॥

حوالہ جات :::: اعتقاد اہل السنّۃ / مؤلف امام هبة اللہ ال لاکانی ،

التمہید / مؤلف امام ابن عبد البر۔

﴿ إِمَامُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِدْرِيسِ الشَّافِعِيِّ، رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبَرَّاهُ، تَارِيخُ وِفَاتِهِ 204 هـ﴾

ابی شعیب ، اور ابی ثور رحمہما اللہ کہتے ہیں کہ امام الشافعی رحمہ اللہ نے فرمایا { } میں نے امام مالک اور امام سفیان الشوری اور دیگر تابعین (ان کا ذکر ان شاء اللہ آگے آئے گا) کو جس طرح سنت کی جس بات پر پایا میں بھی اُس پر ہی قائم ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ :: اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا اور حقیقی معبد نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں ، اور اللہ آسمان سے اُپر اپنے عرش سے اُپر ہے ، جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوق کے قریب ہوتا ہے ، اور جیسے چاہتا ہے دُنیا کے آسمان کی طرف اُترتا ہے } } اور عقیدے کے دیگر معاملات کا ذکر کیا۔

حوالہ :: اجتماع الجیوش الاسلامیہ / فصل فی بیان أَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ / مؤلف امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ ، ناشر دارالکتب

العلمیہ ، بیروت ، پہلی اشاعت ،

مختصر العلو للعلی الغفار / دلیل رقم 196 ، مؤلف ، محقق ، ناشر اور اشاعت کی تفصیل پہلے لکھی جا چکی ہے۔

﴿ إِمَامُ أَحْمَدَ بْنِ حُنَيْبٍ، رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَبَرَّاهُ، تَارِيخُ وِفَاتِهِ 241 هـ﴾

یوسف بن موسیٰ البغدادی کہتے ہیں کہ ، انہیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بتایا کہ اُن کے والد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ، " کیا اللہ عز و

اللہ کہاں ہے؟

جل ساتویں آسمان کے اوپر اپنے عرش سے اوپر، اپنی تمام مخلوق سے الگ ہے، اور اُسکی قدرت اور علم ہر جگہ ہے؟" "،

تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا { { جی ہاں اللہ عرش پر ہے اور اُس (کے علم) سے کچھ خارج نہیں } } امام العلامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے " " اجتماع الحیوں الاسلامیہ " " میں لکھا کہ اس روایت کو امام ابو بکر الخالل رحمہ اللہ " " السنتہ " " میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔

واضح رہے کہ اس عقیدے کے بارے میں ان ائمہ کرام کی طرف سے صرف یہی اقوال میسر نہیں، بلکہ اور بھی صحیح ثابت شدہ اقوال ملتے ہیں، میں نے صرف اختصار کے پیش نظریہ چند ایک اقوال نقل کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ انہیں ہی سب قارئین کے لیے کافی کرنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔

تابعین اور تبع تابعین کی میں سے چاروں بڑے صاحب، مذهب اماموں رحمہم اللہ کے فرائیں کے بعد اب ان شاء اللہ دیگر تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے اقوال پیش کرتا ہوں۔



چاروں اماموں رحمہم اللہ کے اقوال کے بعد دیگر تابعین اور تبع تابعین کے اقوال پیس خدمت ہیں، جس طرح چاروں اماموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تاریخ وفات لکھی تھی ان شاء اللہ اسی طرح اب جن جن بزرگان، دین کا ذکر کروں گا ان کی تاریخ وفات بھی ذکر کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے وہ بھائی بہن جنہیں دین کے معاملات سے متعلق ہر ایک سچی اور حق بات سے روکنے اور دور رکھنے کے لیے کچھ مذہبی تاجر انہیں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ توفیقہ و حابیہ کی بات ہے جو کہ ایک ڈیڑھ سو سال پہلے نکلا تھا، اور اس دھوکہ دہی کے ذریعے ان ٹھیک معلومات نہ رکھنے والے اور

اللہ کہاں ہے؟

ان دھوکہ دینے والوں پر اعتماد کرنے والے مسلمانوں کو غلط راہوں پر چلاتے ہیں،
مسروق بن الاجداع الحمدانی الکوفی رحمہ اللہ (تابعی) :: تاریخ

(۱) وفات 62 ہجری)

انہوں نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے سُنّت رسول علی صاحبھا فضل الصلاۃ و
 التسلیم کا علم حاصل کیا اور آگے پہنچایا، جب یہ ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا
 سے کوئی حدیث روایت کرتے تو کہا کرتے { } مجھے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اللہ کے
 حبیب کی حبیبہ، جس کی برأت سات آسمانوں کے اوپر سے ہوئی، نے بتایا { } اور پھر
 حدیث بیان کرتے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے "اجتماع الجیوش الاسلامیہ" میں
 اس قول کو صحیح قرار دیا۔

(۲) سفیان الثوری رحمہ اللہ (تابعی) :: تاریخ وفات 161 ہجری

کہتے ہیں کہ میں (۳) ربعة بن أبي عبد الرحمن رحمہ اللہ (تابعی)
 :: تاریخ وفات 163 ہجری) کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے اُن سے پوچھا "رمیں عرش پر استوا کیے ہوئے ہے، اس استوا کی کیفیت کیا ہے؟" ،

تو انہوں نے جواب دیا { } استوا کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور (اللہ کے) اس
 استوا کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن اس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کیفیت
 کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے { }

امام الذہبی رحمہ اللہ نے "العلو للعلی الغفار" میں یہ روایت نقل کی، اور امام
 الالبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح السندر قرار دیا۔

(۴) ابن عینہ ابو عمران (تع تابعی) :: تاریخ وفات 198 ہجری

اللہ کہاں ہے؟

رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں، ربعة بن أبي عبد الرحمن رحمہ اللہ (تابعی :: تاریخ وفات 163 ہجری) کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے انہیں پوچھا "رَحْمَنْ عَرْشَ پِرْ أَسْتَوْا كیے ہوئے ہے، اس استوا کی کیفیت کیا ہے؟" تو انہوں نے جواب دیا { استوا کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور (اللہ کے) اس استوا کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اور یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے، اور رسول کے ذمے اسکی تبلیغ تھی (سو وہ انہوں نے کر دی) اور ہمارے ذمے اس کی تصدیق کرنا ہے (جو ہم کرتے ہیں) } } } ، امام حبۃ اللہ بن الحسن الالکانی أبو منصور تاریخ وفات 418 ہجری نے " اعتقاد أهل السنة " میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔

(5) :: امام مقاتل بن حیان النبطی أبو بسطام رحمہ اللہ (تابعی :: تاریخ وفات 150 ہجری)

اللہ کے فرمان ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجَوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذُلْكَ وَلَا أَكْثَرٌ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ، ، ، ، كبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمی سرگوشی کریں تو اللہ ان کے ساتھ چوتھا نہ ہو، اور نہ ہی کبھی پانچ آدمیوں کی سرگوشی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ چھٹا نہ ہو، اور خواہ اس سے کم کی زیادہ کی سرگوشی ہو یا زیادہ کی سرگوشی ہو والہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے لوگ کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ﴾ (سورت المجادلة/آیت 7) کی تفسیر میں،

(6) :: امام الشفییر الصحاک بن مزاحم السلاطی رحمہ اللہ (تابعی :: تاریخ وفات 106 ہجری) کی طرف سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا

اللہ کہاں ہے؟

{ } { } اللہ اپنے عرش پر ہے اور اُس کا عالم اُن (یعنی اُس کی مخلوقات) کے ساتھ ہے
 { } { } امام علامہ قاضی آصیمان ابو احمد العسال اور امام حبۃ اللہ الالکانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔

(7) : صدقہ ابن المنقر کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان التسیمی (سلیمان بن بلال التسیمی تبع تابعی :::: تاریخ وفات 172 ہجری) سے کو کہتے ہوئے سنا { } { } اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کہاں ہے تو میں کہوں گا کہ وہ آسمان پر ہے { } { } امام الذہبی رحمہ اللہ کی " " " مختصر العلو للعلی الغفار " " " دلیل رقم 114، امام الالبانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ (یہ قول) امام حبۃ اللہ الالکانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا۔
(8) : الامام عبد الرحمن بن عمر والأوزاعی رحمہ اللہ (تابعی :::: تاریخ وفات 157 ہجری)

کہتے ہیں کہ { } { } ہم تابعین کی موجودگی میں بھی یہ ہی کہا کرتے تھے کہ :: اللہ عزوجلّ اپنے عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات سُنت شریفہ میں وارد ہوئی ہیں ہم اُن پر (بلا تاویل) ایمان رکھتے ہیں { } { }

امام البیہقی نے " " " الاسماء والصفات " " " میں امام الحاکم کی روایت سے نقل کیا۔

(9) : ولید بن مسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام عبد الرحمن بن

عمر والأوزاعی رحمہ اللہ اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ (تابعی :::: تاریخ وفات 179 ہجری) اور **(10) :** امام سفیان الثوری رحمہ اللہ (تابعی :::

تاریخ وفات 161 ہجری) اور **(11) :** امام الیث بن سعد الفهی

المصری رحمہ اللہ (تابعی :: وفات 175 ہجری) رحمہم اللہ جمعیاً سے اُن احادیث

اللہ کہاں ہے؟

کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا { } ان پر ایسے ہی ایمان رکھو جیسا کہ احادیث میں آیا ہے { } { } ، مختصر العلو للعلی الغفار، امام الذہبی رحمہ اللہ۔

انہی امام الاؤزاعی رحمہ اللہ کا ایک بہت بہترین قول ہے جو کہ امام الاجری رحمہ اللہ نے "الشريعة" میں روایت کیا ہے، گو کہ وہ ہمارے اس موضوع سے براہ راست متعلق نہیں لیکن اُس کا ذکر کرنا ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ مند ہو گا، امام الاؤزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا { } { } تم صحابہ اور تابعین کے آثار (ان کے آقوال و آفعال) پر قائم رہو خواہ لوگ تمہاری بات کو ٹھکرای دیں، اور لوگوں کی باتوں سے بچو خواہ وہ انہیں کتنا ہی سجائیں بنائیں { } { } امام الالبانی نے کہا اس قول کی سند صحیح ہے۔

﴿ 12 ﴾ : امام حمّاد بن زید بن در حشم البصري رحمہ اللہ (تعج تابعی) ::

وفات 179 ہجری)

سلیمان بن حرب رحمہ اللہ (تعج تابعی) :: تاریخ وفات 224 ہجری) کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کو یہ کہتے ہوئے سُننا { } { } تابعین اور سُنت کے اماموں بلکہ صحابہ، اور اللہ اور اُس کے رسول اور تمام ایمان والوں کا کہنا یہ ہی ہے کہ، اللہ عز وجل آسمان پر ہے اور اپنے عرش کے اوپر ہے، اور اللہ اپنے تمام آسمانوں سے اوپر اور بلند ہے، اور وہ دُنیا کے آسمان کی طرف اُرتتا ہے، اور ان کا یہ کہنا قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر ہے :: جبکہ فرقہ جھمیہ والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اس باطل قول سے پاک ہے بلکہ اُس کا علم ہر وقت ہمارے ساتھ ہے { } { } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی۔

﴿ 13 ﴾ : امام محمد بن إسحاق بن يساري امام المغازی (تعج تابعی) :: وفات

اللہ کہاں ہے؟

150 ہجری)،

سلمه بن فضل کا کہنا ہے کہ محمد بن اسحاق نے کہا { } جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ سب سے پہلے صرف پانی تھا اور اُس کے اوپر اللہ کا عرش تھا اور وہ ذوالجلال والا کرام عرش کے اوپر تھا، اپنی تمام مخلوق سے بُلند اور اُس کے اوپر کوئی چیز نہ تھی، اور اُس کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی، پھر اللہ نے روشنی اور آنحضرت ابا بنی، پھر دھویں سے ساتوں آسمانوں کی کمان بنائی اور پھر زمین کو بچھایا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو آپس میں جوڑا اور انکی تکمیل دو دن میں کی، اور زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے ساتِ دنوں میں فارغ ہوا، اور پھر پہلے کی طرح اپنے عرش پر قائم ہو گیا { }، العلو للعَلِيِّ الْغَفارِ، إِمامِ شَمْسِ الدِّينِ الْذَّهَبِيِّ۔

(14) :: الإمام المجاحد عبد الله بن المبارك رحمهُ اللہ (تعتَابُعِي : وفاتِ

الحافظ المحدث علی بن حسن بن شقیق رحمهُ اللہ 181 ہجری) (15) ::

(تعتَابُعِي : وفاتِ 215 ہجری)

کہتے ہیں میں عبد اللہ بن المبارک سے پوچھا کہ "" ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں؟ تو انہوں نے جواب دیا { } اللہ ساتوں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر ہے، ہم جسمیہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہر جگہ یہاں زمین پر ہے { }، الرد علی المریسی، إمام الدارمی۔

(16) :: إمام أبو معاذ خالد بن سليمان الْبلجُنِي رحمهُ اللہ (تعتَابُعِي : تاریخِ

وفاتِ 199 ہجری)،

إمام عبد اللہ بن سعید أبو قدامہ السرخسی رحمهُ اللہ کا کہنا کہ انہوں نے (إمام) أبو معاذ (خالد بن سليمان رحمهُ اللہ) کو فرغانہ کے مقام پر کہتے ہوئے سنائے "" جہنم (بن

اللہ کہاں ہے؟

صفوان، جھمیہ فرقے کا بانی) ترمذ کی گزرا گاہ پر تھا اور اُسکی بات چیت بڑی فصاحت والی تھی، لیکن نہ وہ صاحب علم تھا اور نہ ہی علم والوں کے ساتھ اُسکا اٹھنا بیٹھنا تھا، لہذا وہ لوگوں (کو اپنے راستے پر لانے کے لیے ان) کے ساتھ چکنی چپڑی باتیں کیا کرتا، لوگوں نے اُسے کہا::: جس رب کی تم عِبادت کرتے ہو ہمیں اُسکی صفات بتاو::: تو وہ (جہنم بن صفوان) اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور کئی دن کے بعد باہر نکلا اور لوگوں کو جواب دیا کہ :::::: وہ جیسے کہ یہ ہوا ہر چیز کے ساتھ ہے، اور ہر چیز میں ہے اور کوئی چیز اُس سے خالی نہیں::::: تو اب معاذ نے کہا { } اللہ کادشمن جھوٹ بولتا ہے، اللہ تو اپنے عرش پر ہے جیسا کہ خود اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے { } {"} {"} {"} {"} {"} ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی، الاسماء والصفات، امام البیقی۔

(17) :: امام عبد اللہ بن مسلمہ بن قنبہ معروف ب القعنی رحمہ اللہ

(وفات 221ھ)

بنان بن احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام القعنی رحمہ اللہ نے جھمی فرقہ کے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سُنا کہ :::: الرحمن علی العرش أستولی :::: یعنی::::: رَحْمَنْ عَرْش پر قابض ہوا::::: تو امام القعنی نے کہا { } جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ رَحْمَنْ عَرْش پر قائم ہے، جیسا کہ اب عام لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے تو ایسا کرنے والا جھمی ہے { } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی۔

(18) :: امام أبو بکر عبد اللہ بن الزیر الحمیدی مفتی اصل بک رحمہ اللہ (وفات 179ھجری)،

بشر بن موسی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ الحمیدی نے کہا { } ہم سُنّت کے اصولوں کو جس طرح پاتے ہیں ان پر اُسی طرح قائم ہیں اور وہ یوں ہیں کہ، قُرآن و حدیث میں جو کچھ آیا ہے ہم نہ تو اُس میں کوئی کم بیشی کرتے ہیں اور نہ ہی اُس کی کوئی تفسیر کرتے

اللہ کہاں ہے؟

ہیں، قرآن و سنت جہاں رکتے ہیں ہم بھی وہیں رکتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمن اپنے عرش کے اوپر قائم ہے اور جو ایسا نہیں صحبتا وہ باطل پرست جنمی ہے

{ } مفصل الاعتقاد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ،

(19) :: امام الری ہشام بن عبید اللہ الرازی الحنفی رحمہ اللہ (وفات 179 ہجری)،

علی بن حسن بن یزید السلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ " " ایک آدمی کو جنمی عقائد کا حامل ہونے کی وجہ سے توبہ کرنے کی مهلت دیتے ہوئے قید کیا گیا، جب یہ پتہ چلا کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو ہشام بن عبید اللہ امتحان لینے کے لیے اُسکے پاس گئے اور پوچھا { } کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر اپنی تمام مخلوق سے جدا اور الگ ہے } } ،

تو اس جنمی نے جواب دیا " " میں نہیں جانتا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے الگ ہونا کیا ہے؟ " " ، تو امام ہشام رحمہ اللہ نے کہا { } اسے واپس قید میں ڈال دو اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی } } -

(20) :: امام محمد بن مصعب العابد شیخ بغداد رحمہ اللہ (وفات 228 ہجری)،

آبوا الحسن محمد بن العطار رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے محمد بن مصعب العابد رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ { } اے اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ تو آخرت میں نہ بات کرے گا اور نہ دکھائی دے گا تو وہ صفات کا کافر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے، نہ کہ اس طرح ہے جیسے کہ تیرے زندیق دشمن کہتے ہیں (کہ تو ہر جگہ موجود ہے) } } ، السنۃ، عبد اللہ بن احمد بن حنبل، تاریخ بغداد، امام النظیب البغدادی۔

(21) :: امام الشیخ حافظ سعید بن داؤد المصیصی رحمہ اللہ (وفات 226 ہجری)،

اللہ کہاں ہے؟

ہجری) ابو حاتم الرازی، ابو عمران الطرسوی سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابو عمران نے امام سُنید بن داؤد سے پوچھا "کیا اللہ عز و جل اپنے عرش کے اوپر اپنی تمام مخلوق سے الگ اور مجا ہے؟" تو امام سُنید بن داؤد نے کہا { { جی ہاں } } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی۔

(22) :: امام قتيبة بن سعید، شیخ خراسان رحمہ اللہ (وفات 240 ہجری)،

ابو العباس السراج کا کہنا ہے کہ انہوں نے قتيبة بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سُنا کہ { } ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ساتویں آسمان پر اپنے عرش کے اوپر ہے جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے خود فرمایا ہے، الرحمن علی العرش أستوی::: الرحمن عرش پر قائم ہے اور یہ قول اسلام اور اہل سُنت والجماعت کے اماموں کا ہے { } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی۔

(23) :: امام المحمد ثین امام علی بن المدینی رحمہ اللہ (وفات 234 ہجری)

محمد بن الحارث رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام علی بن المدینی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا "اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل جماعت کا کیا قول ہے؟" تو انہوں نے جواب دیا کہ { } اہل جماعت اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بات بھی کرے گا اور دکھائی بھی دے گا، اور بلاشک و شبہ یہ کہ اللہ عز و جل آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر قائم ہیں { } ، سابقہ حوالہ۔

(24) :: امام اسحاق بن راھویہ رحمہ اللہ (وفات 238 ہجری)،

حرب بن اسماعیل الکرمانی رحمہ اللہ کا کہنا کہ میں نے اسحاق بن راھویہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ "اللہ کے قول ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَبُّهُمْ وَلَا خَبَسَةٍ إِلَّا هُوَ

اللہ کہاں ہے؟

سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ:: کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والا خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ﴿ کی تفسیر ہم کیسے بیان کریں؟ 』 تو انہوں نے جواب دیا کہ (اس کی تفسیر یہ ہے کہ) { } تم جہاں بھی ہو وہ تمہاری شہرگ سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اور وہ اپنی تمام مخلوق سے جدعا اور الگ ہے، اور پھر عبد اللہ بن المبارک کا قول ذکر کیا کہ 『 اللہ اپنے عرش پر ہے اپنی تمام مخلوق سے الگ اور جدعا، اور اس مسئلے میں سب سے واضح ترین دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوْى:: رَحْمَنٌ عَرْشٌ پَرْ قَائِمٌ ہے ﴾ ﴿ ﴾ ، السُّنْنَة ، امام ابو بکر الغفار۔

(25) :: امام اسماعیل بن یحیی المزني رحمہ اللہ (وفات 264 ہجری) علی بن عبد اللہ الحلوانی کا کہنا ہے کہ ہم نے ابا ابراہیم المزني رحمہ اللہ کو سوالیہ خط لکھا، جس کے جواب میں اللہ کی حمد و ثناء اور عقیدے کی باتیں لکھتے ہوئے انہوں لکھا { } اللہ کی نہ کوئی تشبیہ ہے نہ کوئی برابری والا، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا، علم والا اور جاننے والا ہے، اور اپنے عرش پر بلند ہے اور اپنے علم سے اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے، اور قرآن اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کے کلمات اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ہی ہمارے رب میں

اللہ کہاں ہے؟

اللہ سے ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوْى﴾ کی تفسیر پوچھی گئی تو ان کو غصہ آگیا اور انہوں نے کہا { { اس کی تفسیر بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ تم اسے پڑھتے ہو، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور کہتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو } } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذهبی۔

(28) :: إِلَامَ الْحَافِظِ عَثَمَانَ بْنَ سَعِيدَ الدَّارِمِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ (وفات 280 هجری)،

اپنی کتاب ”النقض علی بشر المریض“ میں لکھتے ہیں { { مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے اوپر ہے } } ، اور لکھا { { بے شک اللہ عرش کے اوپر ہے اور وہ عرش کے اوپر سے سُنتا ہے، اُس کی مخلوق میں سے کسی کی سر سراہٹ بھی اُس سے چھپی نہیں رہتی، اور نہ کوئی چیز مخلوق کو اللہ سے چھپا سکتی ہے } } ،

(29) :: إِمامَ أَبُوزَكْرِيْيَا تِيجَيِّيْ بْنَ عَمَارَ السِّجِستَانِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ (وفات 422 هجری)،

اپنی مختصر کتاب میں لکھا { { ہم فرقہ جمیع کی طرح یہ نہیں کہتے کہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کے ساتھ بُجزا ہوا ہے پس ہم نہیں جانتے (کہ کس وقت) وہ کہاں ہے؟،

بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عرش کے اوپر ہے اور اُس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کا علم اور سماعت اور بصارت ہر چیز کو جانتی ہیں اور ہر چیز پر حاوی ہیں، اور یہ ہی اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿،،، وَهُوَ مَعْلُومٌ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾: اور وہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ وہ دیکھتا ہے ﴿کا معنی ہے اور ہم یہ ہی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہی

اللہ کہاں ہے؟

بات اللہ اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے { } { } { } ، کتاب العرش، امام شمس الدین الذہبی، اجتماع جیوش الاسلامیہ، امام ابن القیم الجوزیہ۔


(30) :: شیخ الصوفیہ أبو منصور معمربن زیاد بن احمد رحمہ اللہ (وفات 395 ہجری)، 

آپی القاسم الطبرانی سے روایت ہے کہ امام معمربن زیاد رحمہ اللہ نے کہا { } { } میں اپنے ساتھیوں کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں جو کہ سُنت میں ہے اور جس پر اہل حدیث اور اہل تصوف و معرفت کا اتفاق ہے اور وہ یہ ہے کہ : **اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر قائم ہے اور اس (صفت) کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لہذا نہ تو اسے کسی سے شبیہ دیتے ہیں اور نہ ہی اسکی کوئی تاویل کرتے ہیں، کیونکہ قائم ہونا سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن اللہ کے لیے اسکی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے جدا اور الگ ہے اور اسکی تمام مخلوق اُس سے جدا اور الگ ہے، پس خالق اور مخلوق میں نہ کوئی حلول ہے، نہ اک دُوچے کے ساتھ لگنا ہے اور نہ ہی اک دُوچے سے مجرّنا ہے، اور اللہ سُنتا ہے، دیکھتا ہے، علم رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، بات کرتا ہے، خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے، پسند کرتا ہے، ہنستا ہے، اور قیامت والے دن اپنے بندوں کے سامنے مُسکراتا ہوا آئے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے نزول (یا کسی بھی صفت) کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد عقیٰ ہے { } { } ، العلو للعلی الغفار، امام شمس الدین الذہبی۔**

اس عقیدے کی توثیق کے بارے میں آئتمہ کرام رحمہم اللہ کے تو اتنے فرائیں ہیں کہ ایک اگر سب ہی کو نقل کرنے لگوں تو ایک اچھی خاصی موٹی کتاب بن جائے، لیکن قارئین کرام کی ذہنی و قلبی حاضری برقرار رکھنے کے لیے میں صرف ایک اور عظیم القدر اور معروف امام صاحب رحمہ اللہ کے دو قول ذکر کرتے ہوئے "اقوال، آئتمہ

اللہ کہاں ہے؟

""" کا باب بند کروں گا، اور ان شاء اللہ اُس کے بعد شکوک و شبہات کے جوابات کا باب کھولوں گا،

 (31) :: الإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله

(وفات 430 هجری)،

اپنی کتاب "" الاعقاد "" میں لکھتے ہیں { } ہمارا راستہ وہ ہی جو سلف (الصالح) یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ کا تھا یعنی کتاب اور سُنت اور اجماع امت والا راستہ، اور ان کا عقیدہ یہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ اُس طرح ہی مکمل ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ سے تھا، اُس کی صفات میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ ہی کوئی تبدیلی، ہمیشہ کی طرح وہ اپنے علم کے ساتھ عالم ہے، اپنی بصارت کے ساتھ بصیر ہے، اپنی سماعت کے ساتھ سمیع ہے، بات کرتے ہوئے بولتا ہے، پھر وہ ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا، اور یہ کہ قرآن اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابیں اللہ کا کلام ہیں، اور اللہ کا کلام اُس کی مخلوق نہیں ہے، اور یہ کہ قرآن ہر لحاظ سے یعنی پڑھے جانے، سُننے جانے، محفوظ حالت میں، لکھی ہوئی حالت میں، لپٹی ہوئی حالت میں، ہر لحاظ سے اللہ کا کلام ہے، حقیقی طور پر نہ کہ کوئی حکایت ہے اور نہ ہے کوئی تاویل، اور جب ہم اُسے پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے الفاظ میں بھی اللہ کا کلام ہی ہیں اور اور غیر مخلوق ہی ہیں، اور (قرآن کو مخلوق قرار دینے کے لیے) الفاظ کا فلسفہ فرقہ جہمیہ کی طرف سے آیا ہے اور یہ کہ جو قرآن کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طور مخلوق کہتا ہے وہ سلف الصالح (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ) کے نزدیک جہنمی ہے اور جہنمی کو سلف (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ) کافر جانتے

تھے ،

اللہ کہاں ہے؟

سلف الصالح (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ) کے عقائد کو بیان کرتے ہوئے امام أبو نعیم الاصبهانی رحمہم اللہ مزید لکھتے ہیں کہ { } اور وہ ان تمام آحادیث پر یقین رکھتے تھے اور ان کو بیان کیا کرتے تھے جن آحادیث میں عرش کا ہونا ثابت ہے اور اللہ کا عرش کے اوپر قائم ہونا ثابت ہے، اور وہ اللہ کے عرش پر قائم ہونے کو بغیر کسی کیفیت کے مانتے تھے اور اس کو ثابت کرتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے اللہ اپنی تمام سے الگ اور جدا ہے اور اُسکی تمام مخلوق اُس سے الگ اور جدا ہے، نہ تو وہ کسی کے ساتھ جڑتا ہے اور نہ ہی کسی میں حل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر قائم ہے } } } } } ،

امام أبو نعیم الاصبهانی رحمہم اللہ نے ان تمام باتوں پر سلف الصالح (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و تبع تابعین رحمہم اللہ) کا متفق ہونے کا ذکر کیا اسی لیے میں اس بات کو سب سے آخر میں لایا ہوں،

اور اس لیے بھی کہ ہو سکتا ہے کسی پڑھنے والے کے دل میں یہی خیال آئے کہ جن بزرگوں کے آقوال میں نے ذکر کیے ہیں ان میں سے حدیث کے معروف اماموں میں سے کوئی بھی نہیں تو عرض یہ ہے کہ تمام تر آئمہ حدیث کی کتابوں میں وہ تمام احادیث موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کو ثابت کرتی ہیں،

ان اماموں کا اپنی کتابوں میں ان آحادیث کو موضوع کے مطابق عنوان بناؤ کر ذکر کرنا محض پنساری کی طرح جڑی بوٹیاں ڈھیر کرنا نہیں ہے جیسا کہ اکثر مذہبی تاجر لوگوں کو اپنے تقلیدی دھنے میں پھانسے اور پھانسے رکھنے کے لیے کہتے ہیں، بلکہ انکی فقہ اور عقیدے کا اظہار ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں مختلف عنوان مقرر کر کے ان عنوانوں کے مطابق آحادیث لکھی ہیں اُس سے انکی فقہ کی گہرائی اور وسعت کا ہر آچھی

اللہ کہاں ہے؟

عقل کو صاف پتہ چلتا ہے، بہر حال اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں، اس کے بارے میں ان شاء اللہ پھر کسی وقت بات کروں گا،
یہاں تک سلف الصالح (یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین و تبع تابعین رحمۃ اللہ) کے آقوال ذکر کرنے کے بعد اب ان شاء اللہ اپنے اس موضوع کے بارے میں پائے جانے والے فلسفیانہ اور منطقی شبہات کا جواب دیتا ہوں۔

شکوک و شبہات

اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ موجود کہنے والوں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی تاویل یا اُن کا انکار کرنے والوں کا سب بڑا مسئلہ قرآن کو سمجھنے کے لیے منطق، فلسفہ، صرف لُغت، اپنی آراء اور سابقہ امتوں کی کہانیوں وغیرہ کو اپنانا ہے میں نے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ﴿بِأَنْبِيَّنَاتٍ وَالْزُّرُّوَادَنْزِلَنَا إِلَيْكَ الِّذِّيْرَتِبْيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾::: (ہم نے پہلے رسولوں کو بھی) روشن دلائل اور کتابیں (دے کر بھیجا، اور) ہم نے یہ ذکر (قرآن) آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کی طرف جو نازل کیا گیا ہے آپ اُسے صاف کھول کر بیان فرمادیں،،، شاید کہ وہ غور و فکر کریں ﴿سُورَةُ النَّحْلِ﴾ (16) آیت 44، ذکر کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور احکامات کے بیان و تفسیر کی ذمہ داری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے اور اپنا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کرنے کا سبب ہی یہ بتایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اُس کو بیان کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سُنّت ہے کہ ہمیشہ اپنے رسولوں کے ذریعے ہی اپنے احکام کو نازل کیا ہے تاکہ اُن کی تفسیر و بیان اللہ کے رسول کریں اور اپنی اپنی قوم کو سمجھائیں، اور ہمارے پیارے

اللہ کہاں ہے؟

رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم تمام اقوام کی طرف بھیجے گئے اور آخری پیغام کے ساتھ بھیجے گئے پس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف قرآن اور صحیح حدیث تک ہی محدود رہنا چاہیئے، اور احادیث کی تفسیر اور شرح کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آقوال و افعال تک،

جب مسلمانوں نے ان ذرائع کو ترک کر دیا اور قرآن و سُنت کو اپنی اپنی عقل اور اپنے مزاج، اور منطق، فلسفہ، اور محض لغت کے قواعد (گرامر) کے مطابق سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا تو اس قسم کے باطل عقائدِ دلوں اور ذہنوں میں داخل ہوئے اور پھر ان لوگوں پر اللہ اور اہل ایمان کے ازلی دشمن، اللہ کی لعنت پائے ہوئے شیطان کی مہربانی سے وقاراً فرقاً ان باطل عقائد کو طرح طرح کی نئی فلسفیانہ گرہیں لگتی رہی ہیں، اور لگتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ اُس کا کام ہے جس کے لیے اُس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگ رکھی ہے، پس اُمت طرح طرح کے شبہات و شکوک کا شکار ہوتی گئی، الحمد للہ کہ جس نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کیے جو باطل کو باطل ثابت کرتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ حق کو حق ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ اپنے نازل کردہ کلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الِّذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾: بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ﴿سُورت الحجر (15) / آیت 9﴾

اور حق کو حق کہنے والوں کی ہمیشہ موجودگی کی ضمانت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ و علی آله وسلم نے دی ہے ﴿لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّةٍ أُمَّةٌ قَاتِلَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ، لَا يَصْرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ﴾

اللہ کہاں ہے؟

وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيهِمُمْ أَمْرًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ نَاطِقُونَ اس سے ملتی جلتی کئی آحادیث ہیں جن کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ﴿ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے ساتھ ظاہر ہو گا اور حق کے لیے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں قیامت تک جھکا نہیں سکیں گے ﴾ صحیح البخاری /کتاب الاعتصام بالكتاب و السنّة /باب 10، صحیح مسلم /کتاب الامارة/باب 53،

پس ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ مندرج پر قائم رہتے ہوئے ہی اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائیں کو سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں،

علم الكلام، منطق اور فلسفہ زدہ باتوں کی دینی مسائل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی لیکن چونکہ ایسی باتیں اکثر شیطان کے لیے موثر جہان سے کام دیتی ہیں، لہذا اس اندازے کلام کے پہلو سے اتمام جحت کے لیے میں ان شکوک و شبہات کا جواب بھی دے رہا ہوں جو شکوک و شبہات ہمارے اس موضوع سے متعلق پھیلائے تے ہیں،

ہمارے اس وقت زیرِ مطالعہ موضوع کے بارے میں جو شبہات عام طور پر ذہنوں میں پائے جاتے ہیں ان کا شکار ہونے والے لوگ ان شبہات کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں :

(۱) کہتے ہیں " " " اللہ کو اپر (یعنی عرش) پر مانا جائے تو اللہ تعالیٰ

کے لیے مکان (یعنی کوئی جگہ) ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کفر ہے " " " -

گوکہ کفر کے اس فتوے کی اُنکے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے منطق اور فلسفہ زدہ باتوں کے، لیکن بُرا ہو جہالت پر مبنی اس ضد اور تعصب کا کہ جو اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی

اللہ کہاں ہے؟

بہنوں کو کافر کھلوادیتا ہے،

(2) اور کہا جاتا ہے کہ "اللہ کو عرش سے اوپر ماننے سے اللہ کے لیے ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں مان لیا جائے تو باقی سمتیں اُس سے غائب ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے شان شایان نہیں بلکہ اللہ کے فرمان ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ بے شک اللہ ہر چیز کا أحاطہ کیے ہوئے ہے ﴿سُورَةُ فُصْلٍ﴾ سورت فصلت (41) آیت 54، کے خلاف ہے "۔

یہ فلسفہ بھی ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کو احاطہ کرنے کو معاذ اللہ، چیزوں کو اللہ پاک کے وجود میں، یا اُس کے وجود پاک کے ساتھ متصل ہونا سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی اپنی ذاتی سوچوں کی بنابر تاویل کرتے کرتے اُن کی تعطیل کرتے ہوئے اُن کے انکار کا شکار ہو جاتے ہیں، ولا حول ولا قوة الا بالله،

(3) اور کہا جاتا ہے کہ "اس طرح اللہ کی مخلوق سے مشابہت ہو جاتی ہے اور یہ جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿لَيْسَ كَيْثِلِه شَيْءٌ﴾ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ﴿سُورَةُ الشُّورٍ﴾ سورت الشوری (42) آیت 11"۔

اس آیت مبارکہ کو بھی اپنی ذاتی فکر کے مطابق سمجھنے والوں نے اس کے دوسرے حصے کی طرف کوئی توجہ کیے بغیر اپنی ذاتی سوچوں اور جہالت زدہ قرآن فہمی کی بنابر سمجھا اور حقیقت کے بر عکس مفہوم لے کر اس کی ضد کرنے لگے،

سابقہ صفات میں ان شبہات کے باطل ہونے کے آتنے دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں جو ان شاء اللہ کافی سے بھی زیادہ ہیں لیکن پھر بھی اُن دلوں اور دماغوں کے لیے جو علم

اللہ کہاں ہے؟

الکلام، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے جھانسے میں حق سے دُور ہیں اور حق کو پرکھنے کے لیے ان چیزوں کو کسوٹی بناتے ہیں، ایسے دلوں اور دماغوں کے لیے اب ان شاء اللہ ان مذکورہ بالاشکوک و شبہات کا کچھ منطقیانہ اور فلسفیانہ جواب دیتا ہوں تاکہ قارئین کرام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اُس کی رضا کے ساتھ ان شبہات کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان شکوک و شبہات کے چنگل سے آزاد فرمائے۔

شکوک و شبہات کا جواب

سابقہ حصہ میں جن شکوک و شبہات کا ذکر کیا گیا اُن میں سے پہلا شبہ یہ ہے کہ ::::
(۱) کہتے ہیں " " " اللہ کو اپر (یعنی عرش) پر مانا جائے تو اللہ تعالیٰ
 کے لیے مکان (یعنی کوئی جگہ) ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ کفر ہے " " " -
 گوکہ کفر کے اس فتوے کی فتویٰ دینے والوں کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں، جی ہاں اُن کے دلائل فقط منطق اور فلسفہ زدہ باتیں ہیں، ان باتوں پر اُن کے آعتماد کی وجہ صرف یہ ہی کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنی عقل اور مزاج کے مطابق سمجھا، چند تراجم اور کچھ گمراہ کُن تشریحات پڑھ کر خود کو قرآن اور حدیث پر حکم لگانے والے سمجھ بیٹھے، پس گمراہ ہوئے اور گمراہی کا ذریعہ بنے،
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو اُسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اُس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور اُسی پر ہمارا عمل ہوا اور اُسی پر ہمارا خاتمه ہوا۔

اس کے بعد اب ملاحظہ فرمائیے ان شکوک و شبہات کے جوابات۔

اللہ کہاں ہے؟

:: پہلے شک کا جواب ::

﴿ اپنے جواب کا آغاز کرتے ہوئے میں اُپر بیان کیے گئے فتویٰ دینے والوں

سے یا اس فتویٰ کو درست ماننے والوں سے چند سوالات کرتا ہوں،
 بتائیے کہ مکان یعنی جگہ کوئی موجود یعنی وجود والی چیز ہے یا معدوم یعنی بلا وجود؟
 اگر آپ کہیں کہ معدوم ہے تو میں کہتا ہوں کہ ”جس چیز کا وجود ہی نہیں تو پھر وہ
 اللہ کے لیے یا کسی اور کے لیے ثابت کہاں سے ہو گئی؟“،

اور اگر آپ یہ کہیں کہ مکان یعنی جگہ وجود والی چیز ہے تو میرا سوال ہے کہ ”کیا اسکا
 وجود اُری ہے یا اسے عدم سے وجود میں لا یا گیا؟“،

اگر آپ کا جواب ہو کہ ”اُری ہے“، تو آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنادیا،
 کیونکہ اللہ ہی اکیلا ہے جواز سے ہے اور ابد الابد تک رہے گا،
 اور اگر آپ یہ کہیں کہ مکان یعنی جگہ کو عدم سے وجود میں لا یا گیا (اور درست بھی یہی
 ہے)،

تو میرا سوال ہے کہ ”کیا آپ اسے مخلوق مانتے؟“،

اگر آپ کہیں ”نہیں“،

تو آپ نے پھر اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بنادیا کیونکہ اللہ ہی اکیلا خالق ہے اور اُس کے اور
 اُس کی صفات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اُس کی مخلوق ہے، حتیٰ کہ ہر وہ چیز بھی جو اللہ
 کے مقرر کردہ طریقوں پر ذاتی حد تک یا نسل در نسل خود بڑھتی پھولتی نظر آتی
 ہے وہ بھی بلا شک و شبہ اللہ کی مخلوق ہے، کہیں کوئی ایسی چیز نہ تھی اور نہ ہے اور نہ ہی
 ہو سکتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نہ ہو، پس پوری ہی کائنات پر خالق اور مخلوق

اللہ کہاں ہے؟

کے علاوہ کوئی تیسری تقسیم وارد نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ کہیں کہ "ہاں مکان یعنی جگہ مخلوق ہے" (اور درست بھی یہی ہے)، تو میرا سوال ہے کہ "آپ اور میں اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں سب کسی نہ کسی مکان یعنی جگہ میں ہیں یعنی وجود در وجود ہیں اور سب ہی مخلوق ہیں، اور کسی بھی مخلوق کے موجود باوجود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ مکان رکھتی ہو، پس یہ زمین جس پر ہم ہیں ایک مخلوق ہے اور اپنے وجود میں موجود ہے، اور جس وجود میں یہ باوجود ہے وہ وجود ایک مکان ہے جو کہ مخلوق ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ اس مخلوق مکان کے بعد کوئی اور مخلوق ہے یا نہیں؟"

اگر آپ کہیں کہ نہیں تو یہ ایسی بات ہے جس کو آپ خود بھی جھوٹ مانیں گے، اور اگر کہیں کہ "ہاں آسمان ہے" (اور درست بھی یہی ہے)،

لہذا میں آپ کے اس جواب سے اتفاق کرتا ہوں اور یقیناً آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا اور پھر سب سے آخر میں ساتوں آسمان ہے،

تو میں پوچھتا ہوں کہ "یہ ساتوں آسمان کسی مکان میں موجود ہیں یا بلا مکان؟" اگر آپ یہ کہیں کہ بلا مکان تو یہ بات سراسر غلط ہوئی کیونکہ اس طرح آپ اُن کے معصوم ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، کیونکہ ہر مخلوق کے موجود باوجود ہونے کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے کوئی مخلوق موجود باوجود نہیں ہو سکتی جب تک کہ اُس کے وجود کے لیے مکان نہ ہو، جیسا کہ میں نے اُپر بیان کیا، لہذا آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا کہ "ہاں ساتوں آسمان موجود ہیں"۔

تو پھر میرا سوال ہے کہ " یہ ساتوں آسمان جس مکان میں موجود ہیں اُس کا نام کیا

اللہ کہاں ہے؟

ہے؟ "،

شايد آپ کہیں "، اُس مکان کا نام ہے، خلاء "، تو یہ ایسی بات ہے جو کہ اُپر بیان کئی گئی باتوں کے خلاف ہے کیونکہ " خلاء " کا معنی ہے " خالی، جہاں کچھ نہ ہو "،

اب تو علوم الفلکیات والے بھی جدید تحقیقات میں یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں جس جگہ کو " خلاء ، Space " کہا جاتا ہے وہ خلاء نہیں بلکہ وہاں بھی کچھ فاصلے پر ایسے اجسام پائے جاتے ہیں جو اُس جگہ کو ایک مادے کی شکل دیتے ہیں، پس " خلاء یعنی جہاں کچھ بھی نہ ہو " اُس کا کوئی وجود ہو نہیں سکتا لہذا بلاشک و شبہ ایسی چیز کو معدوم ہی کہا جائے گا موجود نہیں اور جب موجود نہیں تو مکان نہیں اور مکان نہیں تو اُس میں کسی وجود کا موجود ہونا ممکن نہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ " یہ ساتوں آسمان جس مکان میں موجود ہیں اُسے کائنات کہتے ہیں "،

تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں کہ " کیا ان ساتوں آسمانوں کے اُپر بھی کوئی چیز ہے یا کائنات ختم ہو گئی؟ "،

ممکن ہے کہ آپ لوگوں کی خود ساختہ، مَنْ گھڑت روایت کی بنا پر یہ کہیں کہ " جی ہاں وہاں کرو میں فرشتے ہیں "،

اگر ایسا ہے تو میں وقتی طور پر آپ کی یہ بات مان کر یہ سوال کروں گا کہ " ان نام نہاد کرو میں فرشتوں کے بعد کیا ہے؟ "،

اور اگر آپ کرو میں فرشتوں کی بات نہیں کرتے اور آپ عرش کے منکر نہیں تو پھر آپ کا جواب ہو گا کہ " آسمانوں کے بعد عرش ہے " (اور درست بھی یہی ہے)،

اللہ کہاں ہے؟

تو اس صورت میں میرا سوال یہ ہے کہ " عرش کے بعد کونسی سی مخلوق ہے ؟

"

یقیناً اس کا جواب " کوئی مخلوق نہیں " کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہ ہی حق ہے، کائنات کی سب سے بلند ترین چیز اور زمین اور آسمانوں پر محیط عرش اللہ کی آخری مخلوق ہے ﴿ وَسَعَ كُرْسِيٌّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ : : اللَّهُ كَرِيمٌ (عرش) نے زمین اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے ﴾ سورت البقرہ (2) / آیت 255،

توا ب غور فرمائیے کہ یہاں تک منطقی اور فلسفیانہ بحث میں یہ بات ثابت ہو چکی کہ مکان عدم سے وجود میں لائی گئی مخلوق ہے، اور یقینی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں، لہذا اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ کائنات ختم ہو گئی، اور جب کائنات ہی ختم ہو گئی، اور کائنات کی انتہاء کے بعد مخلوق عدم ہوئی پھر وہاں کسی مخلوق مکان کا وجود کیسا؟؟؟

مخلوق ہی ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا ثابت ہونا کیسا؟؟؟ اور جہاں جس چیز کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا وہاں معاذ اللہ اُس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہونے یانہ ہونے کی بات کرنا کیسا؟؟؟

لہذا، اللہ کے لفظ و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق سے یہ ثابت ہوا کہ کسی منطق اور فلسفے کی زور آزمائی بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پاک کے کائنات سے بلند ہونے کی بنا پر اللہ سُبْحَانُهُ وَ تَعَالَى کے لیے کوئی مکان یعنی جگہ ثابت نہیں کر پاتی، یہ محض وسوسہ ہے جو مُسْلِمَانُوں کو ان کے رب کی ذات و صفات کی پہچان سے گمراہی میں ڈالنے کے لیے ان کے دلوں میں بیجا جاتا ہے۔

اللہ کہاں ہے؟

(ان سوالات و جوابات کا بنیادی خیال امام محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ کی ایک
محفوظ شدہ گفتگو سے لیا گیا)

فَأَعْبَرْتُ وَايَا اُولى الْأَبْصَارِ : : : اے عقل والو عبرت حاصل کرو
ذرِ إِدْهَرْ بَھِي توجہ فرمائیے، کہ، اُپر ذکر کیے گئے فتوے کا غلط ہونا ثابت ہو چکا اگر
وقتی طور پر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ کہنے سے کہ اللہ اُپر ہے، اللہ کے لیے مکان
ثابت ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح اللہ کے لیے ایک مکان
ثابت ہوتا ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ اللہ کے لیے کتنے مکان
ثابت کرتے ہیں؟؟؟

اگر ایک مکان یعنی جگہ ثابت کرنا کفر ہے تو پھر یہ فاسفہ زدہ فتویٰ دینے والے جو اللہ کو
ہر جگہ موجود کہتے ہیں ان پر ان کے اپنے ہی فتوے کے فسفے کے اندر ہیرے میں اتنی
جگہوں کی تعداد کے برابر کفر کا یہ فتویٰ لگتا ہے جتنی جگہوں میں یہ اللہ تعالیٰ کو موجود
مانتے ہیں، اور یوں یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں کفر کے مر تکب ہوتے ہیں کہ جس کی
گنتی ممکن نہیں،

ذرا یہ بھی سوچیے کہ اگر یہ درست ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو کیا نعوذ باللہ، اللہ
تعالیٰ غسل خانوں، بیت الخلاء، زنا کے آڈوں، شراب کے آڈوں، جوئے کے ٹھکانوں،
سینما گھروں، گرجا گھروں، مندروں اور ان سے بھی پلید اور گندی جگہوں پر جہاں
سر اسر حرام اور پلید کام ہوتے ہیں وہاں بھی موجود ہے؟؟؟

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ : : : پاک ہے اللہ عرش کا رب، ان صفات

سے جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں﴾ سورت الانبیاء (21) / آیت 22،

اللہ کہاں ہے؟

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْهَا يَصْفُونَ﴾ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب اللہ پاک ہے اُن صفات سے جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں ﴿سُورتُ الزُّخْرُفَ (43)﴾ آیت 82،

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهَا يَصْفُونَ﴾ پاک ہے اللہ، اور بُلند ہے اُن صفات سے جو یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں ﴿سُورتُ الْأَنْعَامَ (6)﴾ آیت 100،

توجہ فرمائیے قارئین کرام کے کس قدر گندہ عقیدہ ہے یہ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ "اللہ ایسی جگہوں میں نہیں بلکہ صرف پاک جگہوں میں ہے" "،

تو میں یہ کہوں گا کہ "اللہ کے ہر جگہ موجود ہونے کی توکوئی دلیل آپ کے پاس ہے نہیں اب اُس میں سے بھی اس تخصیص یعنی کسی جگہ ہونے اور کسی جگہ نہ ہونے کی دلیل کہاں سے لائیں گے؟؟؟

یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اُس کی تمام مخلوق سے الگ، جدا اور بُلند ماننے والوں پر اپنے فلسفوں کی رو میں جو یہ الزام دیتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کو "ایک مکان یعنی جگہ" " میں مان کر کفر کرتے ہیں تو کیا خود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ان گنت جگہوں میں موجود قرار دے کر اپنے ہی فلسفے زدہ فتوؤں کے انہیں میں ملزیں کی نسبت کھیں زیادہ اور بڑے کفر کرنے والے نہیں بن جاتے ہیں، ولا حول ولا قوة الا بالله، اللہ نہ کرے، کہیں آپ بھی ایسے فتوے دینے دلوانے یا ماننے والوں میں سے تو نہیں؟؟؟

ان سب سوال و جواب کے بعد اگر کوئی اپنے فلسفے اور اپنی منطق کی غلطی ماننے کی

اللہ کہاں ہے؟

بجائے اُس غلطی کو چھپانے کی کوشش میں، اُس کی تاویل کرنے کی کوشش میں اگر کوئی یہ کہے کہ " ہمارے یہ کہنے سے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہماری مُراد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم ہے " ،

تو میں کہوں گا کہ " اگر یہ بات ہے تو بتائیے کہ پھر اللہ پاک کی ذات مبارک اُس کا وجود مبارک کہاں ہے " ？？？

اور پھر پورے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ " اس سوال کا حق اور صحیح جواب صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ الاعلیٰ نے اپنے کلام قران شریف میں، اور اُس کی تفسیر میں اور اس کے علاوہ تاکیدی اور اضافی معلومات کے طور پر اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروایا، جس کی بہت سی مثالیں سابقہ صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں " ،

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَتَّمَّ بِنَعْمَتِهِ الصَّالَحَاتُ وَاللّٰهُ وَلِلْتُوفِيقِ -

:: دوسرے شک کا جواب ::

دوسراشک جس کا عام طور پر لوگ شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ :::: کہ " اللہ کو عرش سے اوپر ماننے سے اللہ کے لیے ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو ایک سمت میں مان لیا جائے تو باقی سمتیں اُس سے غائب ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے شان شایان نہیں بلکہ اللہ کے فرمان ﴿أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ : ۵۴ آیت (41) سورت فصلت کے خلاف شک اللہ ہر چیز کا آحاطہ کیے ہوئے ہے ﴿

میں نے کچھ دیر پہلے اس شک کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا " یہ فلسفہ بھی ان کی

اللہ کہاں ہے؟

جهالت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کو احاطہ کرنے کو معاذ اللہ، چیزوں کو اللہ پاک کے وجود میں، یا اُس کے وجود پاک کے ساتھ متصل ہونا سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی اپنی ذاتی سوچوں کی بنابر تاویل کرتے کرتے ان کی تعطیل کرتے ہوئے ان کے انکار کا شکار ہو جاتے ہیں، **و لا حول ولا قوة الا بالله** "،

إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَبِدَّ أَنْ بَاتَ كَيْ مَرِيدٍ وَضَاحِتَ كَرِتَاهُوْنَ،

اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو ہر جگہ ماننے والوں کی اس مذکورہ بالا فسفلیانہ دلیل کے جواب میں بھی مجھے یہ ہی کہنا پڑتا ہے کہ " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سُنّت مبارکہ ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کے اقوال و افعال ، اُمت کے آئمہ اور علماء ربانیں رحمہم اللہ و حفظہم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ، منطق ، فلسفہ خود ساختہ سوچوں ، چند لفاظی باز لوگوں کی کتابیں پڑھ کر یا ان کی تقریریں سُن کر قرآن کو سمجھنے ، اور دین کے مسائل اور معاملات میں حلول اور احکام ایجاد کر لینے کی وجہ سے اسی قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں "،

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر ایک کلمہ گو کو اس اور ہر ایک گمراہی سے محفوظ رہنے کی ہمت

دے،

آئیے اللہ کو اُس کی تمام تر مخلوق سے الگ ، جدا اور بُلند نہ ماننے والوں کے اس مذکورہ بالا دوسرے شک کے جواب میں اُمت کے اماموں رحمہم اللہ کے فرائیں کا مطالعہ کرتے ہیں ،

شیخ الاسلام حفظہ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں " " اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے بارے میں جس جس بات (صفت) کی خبر کی ہے اُس پر ایمان لانا فرض ہے ، خواہ اُس کا مفہوم ہم جانیں یانہ جان پائیں ، کیونکہ رسول اللہ صلی

اللہ کہاں ہے؟

اللہ علیہ وعلیٰ آله وسلم کی صداقت کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لہذا جو کچھ کتاب اور (صحیح ثابت شدہ) سُنّت (شریفہ) میں آیا ہے اُس پر ایمان رکھنا ہر صاحب ایمان کے لیے فرض ہے،

اور اسی طرح جو صفت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور امت کے اماموں کے اتفاق کے ساتھ ثابت ہے اُس پر ایمان رکھنا بھی واجب ہے، کیونکہ ان کا اتفاق کتاب اور سُنّت کے دلائل کی بنیاد پر ہی ہے۔

اور (الفاظ کے عام معنی کو بنیاد بنا کر، اُن کے استعمال میں متکلم کی مُراد جانے بغیر) جس صفت کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بعد آنے والوں نے اختلاف کیا، اُن الفاظ کے بارے میں کسی کے لیے پابندی نہیں کہ وہ اُن الفاظ کی مُراد جانے بغیر اُن کے درست یا نادرست ہونے کی بات ضرور ہی کرے، بلکہ اُسکے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اُن الفاظ کی مُراد جانے بغیر (اُن صفات کے بارے میں) کچھ بات کرے (جن صفات کے لیے وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، پھر بھی اگر کوئی شخص اللہ کی صفات کے بارے میں خبر رکھنے والے الفاظ کی کوئی مُراد لے کر بات کرتا ہے، تو)،

اگر جو مُراد وہ بات کرنے والا لیتا ہے حق ہے تو اُس کی موافقت کی جائے گی اور اگر اُس کی مُراد باطل ہے تو اُس کی مخالفت کی جائے گی اور اگر اُس کی بات ان دونوں (یعنی حق و باطل) مُراد پر مشتمل ہے تو نہ تو اُس کی بات پوری کی پوری قبول کی جائے گی اور نہ ہی پوری کی پوری رد کی جائے گی جیسا کہ لوگ (اللہ کے بارے میں) لفظ "الجهة" یعنی سمت " اور " التحیز یعنی ایک جگہ میں ہونے " کی مُراد میں مخالفت کا شکار ہوئے،

اللہ کہاں ہے؟

پس لفظ "سمت" سے کبھی تو اللہ کے علاوہ کوئی اور موجود چیز مُرادی جاتی ہے اور جب ایسا ہو تو یقیناً وہ چیز مخلوق ہے، جیسا کہ اگر لفظ "سمت" سے مُراد "عرش" یا آسمان لیا جائے اور کبھی اس سے مُراد غیر موجود چیز لی جاتی ہے جیسا کہ جو کائنات کے اوپر ہے،

یہ چیز معلوم ہے کہ (اللہ تعالیٰ کے لیے قُرآن و سُنّت میں) لفظ "الجهة" یعنی سمت "کا کوئی استعمال نہیں ملتا، نہ تواں کی تاسید کرتا ہوا، اور نہ ہی مخالفت کرتا ہوا، جیسا کہ "العلو،" یعنی بلندی "اور "الاستواء" یعنی قائم ہونا، بر اجمن ہونا "اور "الفوقية" یعنی اوپر ہونا "اور "العروج إلیه" یعنی اللہ کی طرف چڑھنا "وغیرہ کا صاف ذکر ملتا ہے،

اور یہ بات بھی یقینی طور پر جانی جا چکی ہے کہ سوائے خالق اور مخلوق کے کہیں کچھ اور موجود نہیں ہے اور خالق سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، نہ اُس کی مخلوقات میں کوئی چیز اُس کی ذات میں سے ہے، اور نہ ہی اُس کی ذات میں کوئی چیز اُس کی مخلوقات میں سے ہے،

پس جو کوئی "سمت" کی نفی کرتا ہے اُسے کہا جائے گا کہ "کیا تم سمت سے مُراد کوئی موجود مخلوق لیتے ہو، اگر ایسا ہے تو اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے اندر ہو، اور اگر تم "سمت" سے مُراد کائنات کے بعد لیتے ہو تو یہ درست ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اوپر ہے اور اپنی تمام تر مخلوق سے الگ اور جدا ہے "،

اسی طرح جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک "سمت" میں ہے تو اُسے جواباً یہ بھی کہا

اللہ کہاں ہے؟

جائے گا کہ ""کیا تم اپنی اس بات سے یہ مُراد لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے اوپر ہے ؟ یا تم یہ مُراد لیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کے اندر ہے ؟ اگر تمہارا جواب پہلی بات ہے تحقیق ہے اور اگر دوسری بات ہے تو باطل ہے ""

(بحوالہ ""التدمریۃ"" صفحہ 65، تا، 67، محمد بن عودہ کی تحقیق کے ساتھ شرکہ العیکان کی چھپی ہوئی)

شیخ الاسلام حفظہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ وضاحت کے بعد یہ شک باقی نہیں رہتا کہ اللہ کو اوپر کہنے سے اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین ہوتا ہے لیکن، اس کے بعد بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ شک کرو ٹیں لیتا رہے تو اُس کے لیے امام ابو محمد عبد اللہ بن عمر الجوینی رحمۃ اللہ کا ایک بہترین اور عقلی دلیل پر منی قول نقل کرتا ہوں جو انسوں نے اپنی کتاب ""الاستوا و الغوقة"" میں لکھا:::

.....اہل علم نے جو کہا ہے اُس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اُن کا کہنا دلیل و برہان سے ثابت ہے، اور وہ یہ کہ، زمین کائنات کے اوپر والے حصے کے اندر ہے، اور یہ کہ زمین ایک گیند کی طرح ہے اور تربوز کے اندر تربوز کی طرح آسمان کے اندر ہے، اور آسمان نے زمین کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، اور زمین کا مرکز سب سے پچلی جگہ ہے، پس اُس کے نیچے جو کچھ آتا ہے اُسے نیچے نہیں کہا جا سکتا بلکہ اوپر کہا جائے گا جیسا کہ اگر زمین کے مرکز سے کوئی چیز سوراخ کرتے ہوئے کسی بھی رخ سے باہر کو آئے تو اُس کا سفر اوپر کی سمت میں ہی ہو گا ((جیسا کہ اگر کوئی میزائل زمین کے اندر کی طرف داغا جائے، توجہ تک اُس کا سفر زمین کے مرکز کی طرف ہو گا اُس وقت تک یہی کہا جائے گا کہ یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اور جب وہ مرکز کو پار کر کے دوسری طرف کے سفر میں داخل ہو گا تو کوئی بھی عقل سلیم والا یہ نہیں کہے گا کہ وہ میزائل نیچے کی طرف

اللہ کہاں ہے؟

جارہا ہے بلکہ یہ ہی کہا جائے گا کہ وہ میزائل اور کی طرف جارہا ہے)) ، اس بات کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زمین کی سطح پر مشرق سے مغرب ((یا کسی بھی ایک سمت میں ، سمت تبدیل کیے بغیر ناک کی سیدھ میں مسلسل)) چلتا رہے تو وہ ساری زمین کا چکر لگا کر وہیں پہنچ جائے گا جہاں سے اُس نے سفر کا آغاز کیا تھا ، اور اس دوران زمین مسلسل اُس کے نیچے رہے گی اور آسمان اور ، پس آسمان کا وہ حصہ جسے زمین کے نیچے سمجھا جاتا ہے وہ حقیقتاً نیچے نہیں اور ہے ، لہذا ثابت ہوا کہ آسمان کسی بھی سمت سے اپنے حقیقی وجود کے ساتھ زمین کے اور ہے ((کیونکہ زمین اس کے اندر ہے)) یعنی زمین کسی بھی سمت سے آسمان کے نیچے ہے " " " " -

اور مزید لکھا کہ " " " " اگر ایک مخلوق جسم یعنی آسمان ((کا معاملہ یوں ہے کہ وہ)) اپنے وجود کے ساتھ زمین کے اور ہے ((اور اس کا ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے)) تو اس (خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ) کا معاملہ کیا ہے جس کے جیسی کوئی چیز نہیں ، اس کے ہر چیز سے بلند اور محیط ہونے کا معاملہ اُس کی شان کے مطابق ہے ((اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مطابق نہیں سمجھا جا سکتا ، ایسا کرنا سراسر گمراہی اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے)) " " " " -

اُپر بیان کئی گئی ان وضاحتوں کے بعد کوئی عقل کا انداہا ہی اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ آسمان نے ہر طرف سے زمین کا احاطہ کر رکھا ہے ، اور آسمان ہر سمت سے اور زمین ہر سمت سے اُس کے نیچے ہے ،

یہ حقائق ان اماموں رحمہم اللہ جمعیاً نے اُس وقت لکھے جب اُن کے پاس ہمارے اس وقت میں موجود وسائل نہیں تھے ، سبحان اللہ کہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وسائل اور علوم موجودہ وقت میں میسر کر رکھے ہیں وہ ان تمام بالتوں کی تصدیق کرتے ہیں ،

اللہ کہاں ہے؟

اس تصدیق کے بعد یہ جاننے میں کوئی مشکل نہیں رہ جاتی کہ جس طرح زمین کو ایک آسمان نے اپنے آحاطہ میں لے رکھا اسی طرح باقی آسمانوں نے ایک کے اوپر ایک نے اپنے سے نیچے والے کو اپنے آحاطہ میں لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ اللہ کی کرسی (عرش) نے زمین اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ﴾ (2) / آیت 255،

تواب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کرسی یعنی عرش پر ہے اور اپنی تمام مخلوق سے الگ اور جدا ہے تو کسی سمت کا تعین کہاں سے ہو گیا!!!!!!

إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتَلْكَ الْبَصِيرَةُ :: وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْبَصِيرَةُ أَعْظَمُ
اگر تم نہیں جانتے تو یہ مصیبت ہے :: اور اگر تم جانتے ہو تو یہ اُس سے بھی بڑی مصیبت ہے،

یعنی جان بوجھ کر انجان بنتے ہو اور حق سے رو گردانی کرتے ہو، اور کرواتے ہو۔

::: تیرے شک کا جواب :::

☞ ☞ ☞ تیرا شک جس کا عام طور پر لوگ شکار ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ::::
"" اس طرح اللہ کی مخلوق سے مشابہت ہو جاتی ہے اور یہ جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ﴿سُورَةُ الشُّورِ﴾ (42) / آیت 11 "" -

☞ ☞ ☞ اس شبے کا ابتدائی ذکر کرتے ہوئے چند صفحات قبل میں نے لکھا تھا ""
اس آیت مبارکہ کو بھی اپنی ذاتی فکر کے مطابق سمجھنے والوں نے اس کے دوسرے حصے کی طرف کوئی توجہ کیے بغیر اپنی ذاتی سوچوں اور جہالت زدہ قرآن فہمی کی بنابر سمجھا

اللہ کہاں ہے؟

اور حقیقت کے برعکس مفہوم لے کر اس کی ضد کرنے لگے۔۔۔۔۔

اور اب ان شاء اللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ،

﴿ اگر یہ بات کہنے والے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیے جانے والے آیت

مبارکہ کے اس حصے کے بعد آیت شریفہ کو آخر تک پورا پڑھ کر اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ السلام کی بیان کردہ تفسیر کو سمجھ لیتے تو وہ فلسفہ اُن کو شکار نہ کر پاتا جس کا یہ شکار ہوئے،

اللہ سُبْحَانُهُ وَ تَعَالَى نے فرمایا ہے ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ : : اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے ﴾ سورت الشُوریٰ (42) /

آیت 11،

محترم قارئین خور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ بتا رہا ہے کہ اُس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اُس کی ایسی صفات کا ذکر بھی کر رہا ہے جو نام کی مشابہت کے ساتھ اُس کی مخلوق میں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت اپنی صفات کے ذکر سے پہلے فرمادی ہے کہ اُس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی صفات میں ناموں کی مشابہت صفات کی کیفیت کی مشابہت کی دلیل ہرگز نہیں،

اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں جس صفت کا ذکر کیا ہے فلسفہ زدہ ذہنوں نے آیت کے صرف ایک حصے کو اپنی منطق کے مطابق سمجھ کر اُن سب صفات کا انکار کر دیا اور اُلطی سیدھی باطل تاویلیں کیں، ان کو اور ان کے پیروکاروں کو اُمت کے

اللہ کہاں ہے؟

اموں نے "معطلہ" یعنی اللہ کی صفات کو ختم کرنے والی جماعت

"کا نام دیا،

اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار یا تاویل کرنے والے یہ سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں پہلے یہ بتا رہا کہ اُس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور پھر یہ بتایا کہ وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، تو اس کا معنی یقیناً یہ ہے کہ اُس کا سننا اور دیکھنا کسی مخلوق کے جیسا نہیں، اسی طرح اُس کا ہنسنا، ناراض ہونا، خوش ہونا، نیچے اترنا، اُس کا چڑھا، اُس کے ہاتھ، اُس کی پنڈلی، اُس کا پاؤں، سب جو کچھ اُس نے اپنے بارے میں بتایا ہے یا اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اُسکی شان کے مطابق ہے یہی مفہوم ہے اللہ کے فرمان مبارک ﴿لَيْسَ كَيْثِلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾: اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے ﴿کا﴾،

یہ ہی ہے وہ مفہوم جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور امت کے اماموں رحمہم اللہ و حفظہم کی تعلیمات میں ملتا ہے،

مزید اور مکرروضاحت کے لیے کہتا ہوں :::

ذراعقل سے سوچا جائے تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ غصہ، محبت، ہنسنا، سنتا، دیکھنا، وغیرہ یہ تمام صفات خالق نے اپنی مخلوق میں بھی رکھی ہیں، اور کسی ایک مخلوق کی صفت کی کیفیت دوسری مخلوق سے نہیں ملتی، حتیٰ کہ ایک ہی جنس کی مخلوق کے دو افراد کی ایک ہی صفت کی کیفیت مختلف ہوتی ہے،

میرا غصہ، محبت، ہنسنا، سنتا، دیکھنا، وغیرہ، آپ کے غصے، محبت، ہنسنے، سنتے، دیکھنے

وغیرہ جیسا نہیں، اور آپکی یہ صفات میری صفات جیسی نہیں، اور اسی طرح ہر ایک انسان میں فرق ہے حتیٰ کہ حیوانات میں بھی یہ فرق موجود ہے، یہ توبات ہوئی کسی ایک مخلوق کا دوسرا مخلوق سے موازنہ کرنے کی، اب اگر ایک شخص کی ایک ہی صفت کو دو مختلف حالتوں میں، دو مختلف نسبتوں سے دیکھا جائے تو وہ بھی ایک جیسی نظر نہیں آتی جیسا کہ ماں سے محبت اور بیوی سے محبت ایک جیسی نہیں، بیوی سے محبت اور بیٹی اور بہن سے محبت ایک جیسی نہیں ہوتی،

الہذا یہ بات ہر آجھی عقل قبول کرتی ہے کہ، کوئی سی دو مخلوق میں کسی ایک صفت کے ہم نام ہونے کی وجہ سے ان دو صفات کا صفات والی شخصیات کا جزوی یا گلی طور پر ایک دوسرے جیسا ہونا یا مشابہہ ہونا کسی بھی طور واقع نہیں ہوتا،

انسانوں اور حیوانات کی بہت سی صفات کے نام ایک ہی جیسے ہیں، جیسا کہ دیکھنا، سننا، چلنا، بھاگنا، کھانا، محبت، غصہ، غیرت اور بے غیرتی وغیرہ،

لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ چونکہ انسانوں اور حیوانات میں یہ صفات ایک جیسی ہیں الہذا وہ ایک دوسرے کے مشابہہ ہو گئے، اور پھر اس مشابہت کو دور کرنے کے لیے کوئی بھی ان دونوں مخلوقات میں سے کسی کی کسی صفت کا انکار نہیں کرتا،

جب یہ معاملہ مخلوق کا ہے تو خالق کا معاملہ اُس کی شان کے مطابق ہے اور ویسا ہی ہے جیسا کہ اُس نے اُپر ذکر کی گئی آیت میں بتایا ہے،

تو یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے کہ دو مختلف چیزوں کا نام ایک جیسا ہونے سے ان چیزوں کا ایک جیسا ہونا ہرگز ضروری نہیں ہوتا، اور دو مختلف صفات دو مختلف چیزوں ہی ہیں جو ہر صاحب صفت کے مطابق مختلف کیفیت کی حامل ہو جاتی ہیں گو کہ

اللہ کہاں ہے؟

نام ایک ہی جیسا ہوتا ہے، پس یہ ہی مفہوم ہے اللہ پاک کے فرمان ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾: اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے کا،

لہذا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو اُس نے خود اور جو اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان پر بلاچوں و چھراں ایمان لانا فرض ہے اور ان کی کسی طور کوئی باطل تاویل کرنا، یا تعطیل کرنا کفر تنک لے جانے کے اسباب میں سے ہے، جیسا کہ کوئی یہ کہے اللہ کے ہاتھ سے مُراد اُس کی قدرت ہے، یا اللہ کی پنڈلی سے مُراد اُسکی زبردستی ہے، وغیرہ، وغیرہ، اس قسم کی باطل تاویلات اکثر کتابوں، بلکہ عام کتابوں میں تو کیا تفسیر اور شرح کی کتابوں میں لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ولا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِلَيْهِ اشْتَكِي وَهُوَ الْمُسْتَعْنَى۔

امید ہے کہ ہمارے زیر بحث موضوع پر اتنی بات ان شاء اللہ کافی ہو گی، لکھنے کو اور بھی بہت کچھ ہے لیکن بات کو مختصر رکھنے کی غرض سے یہیں رکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں سے ضد اور تعصب دور کرے اور حق جانے، اُس کے قبول کر کے ہمیشہ اُس پر عمل کرنے، اور اُس کو نشر کرنے کی توفیق عطا، فرمائے۔ کسی پڑھنے والے کے دل و دماغ میں کوئی اور شبہ یا سوال ہو تو میری گذارش ہے کہ کسی جھجک کے بغیر اُس شبے کو سامنے لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گذارش بھی ہے کہ اپنے شک و شبے، یا سوال کو سامنے لانے سے پہلے جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے اُس کا بغور اور بار بار مطالعہ کرے عین ممکن ہے کہ اُس کے شک کا جواب پہلے سے ہی

اللہ کہاں ہے؟

اس کتاب میں موجود ہو۔

والسلام علیکم، طلبگارِ دعا، عادل سُسیل ظفر۔

۵۰۷/JANUARY/2004 // ۱۴۲۳ ھجری //

مصادر و مراجع :::

کتاب اللہ العزیز قرآن کریم،

كتب السنّة

صحیح البخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ،

سنن ابن ماجہ، سنن الترمذی، سنن النسائی، سنن ابو داؤد،

سنن الدارمی، سنن البھقی، سنن الدارقطنی،

المستدرک للحاکم، مسند احمد،

كتب العقيدة والشروح

"العلو للعلی الغفار" ، امام شمس الدین الذھبی رحمہ اللہ،

"مخصر العلو للعلی الغفار" ، امام محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ،

"کتاب العرش" ، امام شمس الدین الذھبی،

"اجتماع جیوش الاسلامیة" ، امام ابن القیم الجوزیہ۔

"التدمریة" ، شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ۔

"أثبات الصفة العلو" ، امام موفق الدین عبد اللہ بن احمد بن قدامة المقدسی۔

"الاستواء الفوقيۃ" ، امام ابو محمد عبد اللہ بن عمر الجوینی۔

اللہ کہاں ہے؟

”عقیدہ الطحاویہ“ ”امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی الحنفی۔

”شرح عقیدہ الطحاویہ“ ”امام صدر الدین محمد بن علاء الدین المعروف ابن ابی عبد العزیز الحنفی۔

”اعتقاد اهل السنّۃ“ ، امام هبة اللہ الالکانی۔

”السنّۃ“ ، امام ابو بکر الخیال۔

”التمهید“ ، امام ابن عبد البر۔

كتب التاريخ و تراجم الرجال

”تاریخ دمشق“ ، امام ابن عساکر رحمہ اللہ،

”تاریخ بغداد“ ، الخطیب البغدادی رحمہ اللہ،

”تاریخ اصحابہan“ ، امام ابن مندہ رحمہ اللہ،

”تذکرة الحفاظ“ ، امام شمس الدین الذھبی رحمہ اللہ،

”سیر الاعلام“ ، امام شمس الدین الذھبی رحمہ اللہ،

”الوافی بالوفیات“ ، للصفدی رحمہ اللہ۔